


شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد سائیں صاحب دہشت برکات ہجرت

دردِ سحر کی علامتیں



تلخیص و اقتباسات از کتب سائل

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد سائیں صاحب دہشت برکات ہجرت

شعبہ نشر و اشاعت

خانقاہ امامیہ اہل تشرفیہ گلشن اقبال لاہور



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، اَمَّا بَعْدُ!

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ عالی کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا بجا دعاء مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا ہے کہ: ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا، اور پوچھا یا رسول اللہ! ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ اگر قریب ہے تو اس سے چپکے چپکے دعاء کریں۔ اور دور ہو تو اس کو پکاریں۔ حضور ﷺ نے سن کر سکوت فرمایا۔ اس کے بعد ہی آیت ذیل نازل ہوئی۔ ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أَحْبَبْتُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“ (اے محمد ﷺ) اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ (میں ان سے قریب ہوں یا دور؟ تو میری طرف سے ان سے فرما دیجئے کہ:) میں قریب ہوں، میں دعاء مانگنے والے کی دعاء کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعاء کرے۔ ((معارف القرآن از مفتی محمد شفیعؒ، جلد ۱۱، سورۃ البقرۃ: آیت ۱۸۶))

اسی طرح دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ“ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ: تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاء کو قبول کروں گا۔ (سورۃ المؤمن: آیت ۶۰) یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ بندوں کو اپنی ذاتِ عالی سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ درحقیقت دعاء بہت بڑی عبادت ہے، جیسا کہ اسی آیتِ مبارکہ ہی کے آخر میں دعاء کو عبادت سے تعبیر فرما کر روگردانی کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی۔

یہی وجہ ہے کہ سرور عالم ﷺ نے بھی دعاء کو عبادت کا مغز قرار دیا ”الْذُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ“ دعاء عبادت کا مغز ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص: ۱۹۴) یعنی جھلکے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں۔ اور اسی مغز کے دام ہوتے ہیں۔ اگر بادام کو پھوڑو تو اس میں سے گری نکلتی ہے۔ اور اسی گری کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ اگر جھلکوں کے اندر گری نہ ہو تو ”بادام“ ”بے دام“ ہو جاتا ہے۔ عبادتیں بہت سی ہیں، اور دعاء بھی ایک

عبادت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، عبادت ہی نہیں عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذلت پیش کرے، اور ظاہر و باطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارگاہ بے نیاز میں پوری نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو، اور چونکہ یہ عاجزی والی حضوری دعاء میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے دعاء کو عین عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا۔ دعاء کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی اور حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے، اور سراپا نیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کر کے لچھاتا اور گڑگڑاتا ہے اور قادرِ مطلق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے۔ تو اس کا یہ شغل سراپا عبادت بن جاتا ہے۔ ((ماخوذ از انوار البیان ج ۴۷ سورۃ مؤمن))

چونکہ دعاء عبادت ہی عبادت ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنَ الدُّعَاءِ“ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعاء سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ اور برتر نہیں (مشکوٰۃ المصابیح ص: ۱۹۴ عن الترمذی)

اور آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللَّهَ يَعْضَبْ عَلَيْهِ“ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے (ترمذی شریف ص: ۳۳۷۳)

انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے جتنی تدبیریں کرتا ہے، اور دکھ، تکلیف اور نقصان اور ضرر سے بچنے کے لیے جتنے طریقے سوچتا ہے ان میں سب سے زیادہ آسان، مؤثر اور معتبر طریقہ دعاء کرنا ہے۔ نہ ہاتھ پاؤں کی محنت، نہ مال کا خرچہ، بس دل کو حاضر کر کے دعاء کر لی جائے۔ غریب، امیر، بیمار اور صحت مند، مسافر اور مقیم، بوڑھا اور جوان، مرد ہو یا عورت، مجمع ہو یا تنہائی، ہر شخص دعاء کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ“ دعاء کے بارے میں عاجز نہ بنو، کیونکہ دعاء کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہ ہوگا۔ (الترغیب والترہیب للحافظ المنذری)

سچ یہ ہے کہ دعاء مؤمن کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے مجبّہ والمملّت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: ”دعاء تدبیر سے زیادہ معتبر ہے“

ہمارے حضرت والا حضرت اقدس، جنید زماں، تمیزِ دوراں، رومی ثانی، مجددِ دوراں، شیخ العرب و العجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعاء کی افادیت و اہمیت کو بہت ہی پیارے انداز سے مثال دیکر سمجھایا۔ فرمایا کہ: دعاء کرنا ایسا ہے جیسے بجلی کا سوئچ دبا یا، بجلی پاور ہاؤس سے آئی، اور بلب روشن ہو گیا۔ پس سرچشمہِ رحمتِ حق اُس بندہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو دعاء کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دعاء مانگتے وقت ایک جملہ قلب میں آیا کہ ہم مانگنے لگے کام بننے لگے۔ دعاء مانگتے ہی حق تعالیٰ کی عنایت ہماری کار سازی شروع کر دیتی ہے۔ اور دعاء قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے، مگر ظہور میں حکمت کے مقتضی سے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اور قبول ہونے کے لیے ظہور لازم نہیں جیسے حمل کا وجود ہو گیا مگر ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ (خزائنِ شریعت و طریقت ص: ۶۳، ۶۴)

اسی طرح ایک اور جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے کرنے کے مذموم ہونے کو ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ: جیسے کوئی کریم کہے کہ میری کھڑکی کو کھٹکھاؤ تو میں عطا کرونگا۔ پھر اگر کوئی نہیں کھٹکھاتا تو اس میں نعمت کی ناقدری ہے، اور کریم سے استغناء ہے، پھر محروم رہے تو کیا تعجب ہے۔

دور حاضر میں امتِ مسلمہ جن مصائب و الالم سے دوچار ہے اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب رجوع الی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعائے نہ مانگنا بھی ہے، یا جس یقین، جن آداب کو ملحوظ کر کے دعاء مانگنی چاہئے۔ ہم سے اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: جب سے امتِ مسلمہ نے خلوت میں اور راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا نا چھوڑا ہے تو اس وقت سے دن بھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔

الغرض آداب و عنوان اور مسنون طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی دعا صحیح طریقہ سے نہیں مانگتا (۱) اس بات کے پیش نظر حضرت صوفی محبوب زکریا صاحب دامت برکاتہم خلیفہ مجاز بیعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہمارے پیارے مرشد، شیخ العرب و العجم، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات اور (۱) دعاء کے آداب مستقل طور پر "آداب دعاء" کے عنوان سے آرہے ہیں۔

عمومی و خصوصی دعاؤں سے ضروری عنوانات کے تحت مختلف دعاء کے کلمات کو یکجا کر دیا جائے، تاکہ ہر شخص انہیں آسانی سے پڑھ کر، ان کے مطابق اپنے پروردگار سے اپنی حاجت کو طلب کر سکے۔ یقیناً حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کو اس قدر بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ جو بھی قاری ان دعاؤں کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے گا وہ یوں محسوس کرے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کی التجا کو سن رہے ہیں، اور اپنی رحمت نچھاور کر رہے ہیں۔ اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اہل اللہ کی دعائیں درِ دل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

دعا کی کلمات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مواظظِ حسنہ اور مطبوع و غیر مطبوع ملفوظات (سی ڈیز و کیسٹز) میں موجود ہیں، جنہیں حضرت صوفی شاہ محبوب زکریا صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا کے مواظظ سے اکٹھا کیا، اور بعض علماء نے انہیں جمع کیا، اور مکررات کو حذف کر کے مختلف عنوانات کے تحت انہیں مرتب کیا، پھر جہاں کسی ایک ماخذ سے اقتباس تھا تو وہاں اس کا حوالہ دیدیا اور جہاں ایک سے زائد مواظظ و ملفوظات سے اخذ کیا تو وہاں طوالت کے خوف سے حوالہ جات نہیں دئے جاسکے، تاہم اس سلسلے میں غیر مطبوع مواد تقریباً آٹھ سی ڈیز میں موجود تھا جن سے اس کتاب میں مدد لی گئی، اور اب الحمد للہ! حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک و پُرسوز دعاؤں کا مجموعہ ہدیہ عارین ہے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ محبی و محبوبی، سیدی و سندی، شیخ العرب و العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لئے اور حضرت اقدس پر اپنی کروڑوں رحمتوں و برکتوں کے نزول کے لئے دعا فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محبوب زکریا صاحب دامت برکاتہم کو جزائے جزیل عطا فرمائے جنہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتب و مواظظ اور صوتی بیانات سے ان دعاؤں کو اکٹھا کرنے کی ترغیب دی اور اس کارِ عظیم کے محرک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی اور جملہ معاونین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہِ عالی میں بلا استحقاق شرف قبولیت سے نوازے، اور اسے ہم سب کے لیے ذخیرہء آخرت بنائے، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل

کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اثر ڈال دے، اور دعا پڑھنے کے بجائے عاشقانہ طریقے سے دعاء مانگنے کی توفیق حضرت والا کی دعاؤں کے اس مجموعہ کے ذریعے نصیب فرمائے۔ اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین

راقم

یکے از خدام حضرت والارحمۃ اللہ علیہ

آدابِ دعاء

- (۱) دعاء مانگنے والا یقین کامل کے ساتھ دعاء کرے۔ (مشکوٰۃ)
- (۲) دعاء کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہئے۔ (طبرانی)
- (۳) با وضو قبلہ رخ بیٹھ کر دعاء کرنی چاہیے۔ (مشکوٰۃ)
- (۴) چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی دعاء اللہ سے کرنی چاہیے۔ (ترمذی)
- (۵) دعاء مانگنے والے کا کھانا، پینا اور لباس حلال ہونا چاہیے۔ (مشکوٰۃ)
- (۶) دعاء میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ (صحاح ستہ)
- (۷) اپنے کو مقدم کر کے تمام مسلمانوں کے لیے دعاء مانگنی چاہیے۔ (صحاح ستہ)
- (۸) بار بار (کم از کم تین مرتبہ) ایک دعاء کو مانگے۔ (مسلم شریف، حدیث عائشہؓ)
- (۹) شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ (طبرانی)
- (۱۰) گناہ اور قطع رحمی کی دعاء نہیں کرنی چاہیے۔ (مسلم شریف)
- (۱۱) ہاتھوں کو اٹھا کر دعاء کرنی چاہیے اور یہ ہاتھ سینے تک اٹھانے چاہئیں۔ (ابوداؤد)
- (۱۲) دعاء کے آخر میں ”آمین“ کہنا چاہیے، اور ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینا چاہیے۔ (ابوداؤد)
- (۱۳) دعاء پڑھنے کے بجائے دل کی گہرائی اور ذوق سے دعاء مانگنی چاہیے۔

حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں
نہ آؤں تو دل مضطر کو لے کر پھر کہاں جاؤں
(شاہ محمد احمد صاحب[ؒ])

کریم کی تعریف

دنیا میں کوئی آدمی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرنے سے پہلے اس کی شان، صفات، خصلت کو معلوم کرتا ہے، اسی طرح ہمارے پیارے مرشد و شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اللہ تعالیٰ کی صفت ”کریم“ کی تعریف و مفہوم کو دلنشین انداز سے بیان فرمایا (جو درج ذیل ہے) تاکہ جو بھی دعا مانگنے والا ہو وہ باری تعالیٰ کی شانِ کریمی کے مفہوم کو جب سمجھ لے گا تو وہ ناامید نہیں ہوگا۔

اللہ کا ایک نام کریم ہے اور کریم کی تین تعریف بیان کرتا ہوں،

۱۔ ”أَيُّ مُتَفَضِّلٍ بِدُونِ الْأُسْتِحْقَاقِ“ حق نہیں بنتا ہے پھر بھی مہربانی کرنے والا۔

۲۔ ”أَيُّ مُتَفَضِّلٍ بِلَا مَسْئَلَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ“ بغیر سوال اور بغیر وسیلہ کے دینے والا۔

۳۔ ”أَيُّ مُتَفَضِّلٍ فَوْقَ مَا يَتَمَنَّى بِهِ الْعِبَادُ“ جتنا انسان تمنا کرے اس سے زیادہ عطا کرنے والا۔ (نفس کے حلوں سے بچاؤ کے طریقے)

عفو، عافیت اور معافات کی حقیقت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ: دنیا میں کونسی نعمت سب سے بڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عافیت“۔ اب ”عافیت“ اور ”معافی“ اور ”عفو“ ان اصطلاحات کی صحیح تعریف و مفہوم ہر ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت والا کی شانِ شفقت ہے کہ ہم جیسے ناقصوں پر کرم فرماتے ہوئے اپنے بیان و دعا سے قبل اس قسم کے کلمات کی تشریح کرتے ہیں:

تین باتیں مانگی گئی ہیں عفو اور عافیت اور معافات۔ عفو کے معنی ہیں اللہ! ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس پر ستاری کا پردہ ڈال دے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ: عفو کے معنی ہیں ”مَحْوُ الذُّنُوبِ وَ سِتْرُ الْعُيُوبِ“ اور عافیت کے معنی ہیں: اَلْسَّلَامَةُ فِي

الدِّينِ مِنَ الْفِتْنَةِ“ کہ ہمارے دین کو سلامت رکھیے تمام گناہوں سے اور ہر فتنہ سے،
وَالسَّلَامَةُ فِي الْبَدَنِ: اور ہمارے بدن میں سلامتی نازل کیجئے ”مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ
وَالْمِحْنَةِ“ یعنی بُری بُری بیماریوں سے اور سخت تکلیفوں سے۔ دین میں سلامتی عطا فرما،
گناہوں سے حفاظت فرما۔ اور یا اللہ! بری بیماریوں سے بچا نزلہ، زکام اور حرارت مراد نہیں
ہے مراد کینسر ہے، گردے کی پتھری ہے، بلڈ کینسر ہے، اور خطرناک بیماریاں۔ اور معافاۃ کے
معنی ہیں: ”أَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ وَيُعَافِيَهُمْ مِنْكَ“ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو
بچائے ہمارے شر سے اور مخلوق کے شر سے ہم کو۔ (وعظ فضائل توبہ بحوالہ مرتقا: ۵/۲۳۵، نیز بیان

ڈھاکا مگر مسجد۔ ڈھاکہ CD4)

دعا کی قبولیت کے لیے کلمات

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مفسر کبیر علامہ آلوسیؒ کی تفسیر روح المعانی کے حوالے سے دعا کی قبولیت کے
لئے اسمِ اعظم اور اس کی عام فہم تشریح کی ہے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے اگر اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو ”يَاذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ“ تین دفعہ پڑھ لو، کیونکہ اس میں اسمِ اعظم ہے، اور ”يَاذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ“ کے معنی بھی کم لوگ بتا سکیں گے۔ ”يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ کے معنی ہیں:
”ذُو الْأَسْتِغْنَاءِ الْمَطْلُوقِ وَالْفَضْلِ الْعَامِّ“ انسانوں میں بعض لوگ مستغنی تو ہیں مگر ان
کا فیض عام نہیں ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا میں مستغنی ہوں، تم سے بے نیاز ہوں مگر سارے عالم
کا خیال رکھتا ہوں، میرا فضل عام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آمین

حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک دعا

حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گئے تو آپ نے بھائیوں کو معاف فرمادیا اور فرمایا: لَا تَثْرِبْ عَلَيْنَا الْيَوْمَ یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں لیکن بھائیوں کو فکر ہوئی کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے تو معاف کر دیا لیکن خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ معاف کریں تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری معافی کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی معافی کے لئے اللہ تعالیٰ سے بارہ سال دعا کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے وہ دعا لے کر آئے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا تھا۔ وہ دعا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ہمیں حاصل ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

”يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَعْ رَجَائَنَا“ اے ایمان والوں کی آخری امید! ”لَا تَقْطَعْ رَجَائَنَا“ ہماری امیدوں کو منقطع نہ کیجئے اور ”يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنَا“ اے فریاد یوں کے فریاد رسی کرنے والے! ہماری فریاد رسی فرما، وَيَا مُعِينَ الْمُؤْمِنِينَ اغْنِنَا، اے مومنوں کے مددگار ہماری مدد فرما۔ وَيَا مُحِبَّ التَّوَّابِينَ تَبِّ عَلَيْنَا“ اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے! ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین (عظا علامات مقبولین)

اے میرے پیارے ربا! تجھے اپنی شانِ کریمی کا واسطہ

دنیا میں جب کسی چھوٹے بچے کو اپنے والد سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ انتہائی پیار و محبت سے مانگتا ہے کہ ابا کے دل میں شفقتِ پدری جوش میں آجاتی ہے۔ اور جو تمام اباؤں کا ربا ہے اور جو تمام والدین کے دل میں محبت کا ذرہ دینے والی ذات ہے، اس ذات سے کس قدر مسکنت سے مانگنی چاہئے؟ اس کو پیارے مرشدِ امت برکاتہم العالیہ نے اپنے مخصوص کلمات سے ہماری تربیت و تعلیم کے لئے مانگ کر دکھایا ہے:

اے اللہ! مولانا رومی نے آپ کی شان میں فرمایا ہے:

اے زلو کس گشتہ جانِ ناکساں

دستِ فضل تست درجا نہارساں

اے اللہ! بہت سے نالائق بندے آپ کے کرم اور مہربانی و رحمت سے لائق بن گئے، کتنے گنہگار آپ کی رحمت سے ولی اللہ ہو گئے۔ ہماری نالائقیوں پر رحم فرمائیے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم سب کو اللہ والی زندگی اور اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرمائیے۔ (1997-06-28، نمبر 02)

ہم نالائق ہیں لیکن آپ تو لائق ہیں، اپنے کرم سے ہم نالائقوں پر مہربانی فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں ”يَا مُتَفَضِّلُ بَدُونِ الْأُسْتِحْقَاقِ وَالْمِنَّةِ“ آپ مہربانی کر دیجئے بغیر استحقاق کے، کیوں کہ ہمارا حق نہیں بنتا، لیکن باوجود نالائقیوں کے آپ مہربانی فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں ”يَا مُتَفَضِّلُ بِلَا مَسْئَلَةَ وَلَا وَسِيلَةَ“ ہم نے جن نعمتوں کا سوال نہیں کیا اور نہ ہمارے پاس اس کا وسیلہ ہے آپ اس کو بھی عطا فرما دیجئے۔ ”يَا مُتَفَضِّلُ فَوْقَ مَا يَتَمَنَّى بِهِ الْعِبَادُ“ اللہ! ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ (نفس کی حقیقت اور اس کے شر سے حفاظت، CD6، نفس کے عملوں سے بچاؤ کے طریقے)

اے خدا! آپ کا آفتاب اور سورج جو دنیا کے آسمان پر چمک رہا ہے یہ جنگل میں گائے، بھینس کے گوبر پر اور لید اور نجس گندگی پر اثر ڈالتا ہے، اپنی شعاعیں نہیں ہٹاتا کہ تم جیسے خبیث اور لید اور پانچخانہ اور گوبر پر میں اپنی پاک شعاعیں کیوں ڈالوں؟ تو اے اللہ! آپ کی رحمت کے آفتاب کا کیا ٹھکانہ ہے! اگر آپ اپنی ایک شعاع رحمت ہم نالائقوں پر ڈال دیں تو ہماری نجاستیں پاکی سے اور ہمارے اخلاقِ رذیلہ اخلاقِ حمیدہ سے بدل جائیں گے۔ (لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، CD08)

آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم فرما دیجئے۔ ہمارا منہ چھوٹا ہے شرم بھی آتی ہے، لیکن اگر ہم آپ سے نہ مانگیں تو ہم کس سے مانگیں، اس لیے کہ آپ کریم ہیں، اور آپ کی رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ ہم نااہلوں پر فضل کر دیجئے۔ اور نیکو کاروں کے بھی آپ رب ہیں اور گناہ گاروں کے بھی آپ رب ہیں۔ (مومن کی شان، Cd5، 69-37)

اے اللہ! ہم اپنی پستی اور اپنی کمتری اور اپنی غلامی کی ذلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نالائقیوں، کوتاہیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے کرم اور آپ کے لائق ہونے کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کریم ہیں۔ کریم کی تعریف ملا علی قاری نے روایت کی ہے کہ: کریم وہ ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے، ہم آپ کے کریم ہونے کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہم سب کو ہماری نالائقیوں کے باوجود اپنے اولیائے صدیقین کا مقام نصیب فرمادیتے، اور ہماری جانوں کو جذب فرمالیجئے، اور اپنی تمام انعامات کے خزانے جلد سے جلد برسا دیتے، کیونکہ ہمارے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اتنا پہلے خزانے برسا دیتے تاکہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ! ہم آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی ناراضگی ہم سب سے اٹھا لیجئے، اور اپنی رحمت سے اپنی رضا کی حیات نصیب فرمادیتے۔ ناراضگی کی زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرمادیتے۔ آمین (اتباع سنت، CD4)

دنیا و آخرت سنو اردے!

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

علامہ آلوسی اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں ”وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ“ (الحدید، آیت ۲۰) کی تفسیر فرماتے ہیں کہ: دنیا متاع غرور یعنی دھوکہ کی پونجی کب ہے؟ ”إِنَّ الْهَتَكَ عَنِ الْآخِرَةِ أَكْرَدُ دُنْيَا آخِرَتِ سَ غَافِلٍ كَرْدَے“ ”وَأَنْ جَعَلْتَ الدُّنْيَا وَسِيْلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيْعَةً لِّهَا فَهِيَ نَعْمَ الْمَتَاعُ“ اور اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بہترین پونجی ہے۔ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور دعاؤں میں ایسی دنیا کو مانگا گیا ہے جو آخرت کے لئے مضرب نہ ہو اور آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہو اور جو دنیا، آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہو اس سے پناہ مانگی ہے:

یا اللہ! دنیائے فانی سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دے، اور اپنی محبت کو غالب کر دے، اور ہماری دنیا بھی راحت والی اور عافیت والی بنا دے، اور آخرت بھی راحت و عافیت والی

بنادے۔ جب اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی ہوں تو ہم سب کی آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما، اور ہم کو ضرورت سے زیادہ راحت کی دنیا عطا کر دے کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ! ہم زیادہ مجاہدے اور مشقتیں نہیں برداشت کر سکتے اس لیے ہم سب کو عافیت کی، راحت کی دنیا بھی عطا فرما دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اپنا ہی محتاج فرما۔

(تین قسم کے گناہ پر چار قسم کا عذاب CD7)

یا اللہ! دنیا بھی اتنی دے دے کہ کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے۔ (بیان خانقاہ گلستان جوہر، CD7۔ وعظ

نمبر 65 لذت قرب خدا)

اے اللہ! ہم سب کو سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھے۔ گردہ میں پتھری، کینسر، فالج، لقوہ، تصادم ایکسیڈنٹ، جملہ خطرناک حالات، امراض اور فتنوں سے بچا کر رکھے۔ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھے، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے اٹھائیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے۔ صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ دعا ہم سب کے لئے اور ہر مومن کے لئے قبول فرمائیے۔ (وعظ نمبر 07، خوشگوار ازدواجی زندگی)

۔ دونوں جہاں کا دکھڑا آخرت تو روچکا ہے

اب اس پہ فضل کرنا یا رب! ہے کام تیرا

ہماری دنیا بھی بنا دیجئے کہ وہ پردیس ہے اور آخرت بھی بنا دیجئے کہ وہ ہمارا وطن ہے۔ اے اللہ! آپ ہمارے دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دُنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، آپ ہمارے دونوں جہاں سنوار دیجئے۔ یا اللہ! ابا اپنے بچوں کو پردیس میں بھی آرام سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وطن میں ان کے لیے مکان اور بلڈنگ بنانے کی فکر کرتا ہے۔ آپ تو ہمارے ربا ہیں، ہمیں پردیس میں آپ نے بھیجا ہے، آپ ہماری دُنیا بھی بنا دیجئے کہ ہم آرام سے رہیں۔ آپ کو خوب یاد کریں اور آپ کی نافرمانی سے بچیں۔ (وعظ نمبر 63 حقوق الرجال)

اے خالق حیات! آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اگر آپ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم زندہ نہ ہوتے، اس لیے ہم اپنی حیات کے خالق سے رجوع کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا آپ ہماری زندگی کو اللہ والی زندگی بنا دیجئے۔ ہر لمحہ حیات کو، ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما کر، ہماری زندگی کی ہر سانس کو ہفت اقلیم کی سلطنت سے افضل بنا دیجئے، اور ہماری کوئی سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے ہم اس کی فریاد کرتے ہیں اور اس کے اسباب و وسائل اختیار کرنے کی توفیق مانگتے ہیں وسائل، یعنی اہل اللہ کی صحبت، اپنی اصلاح و نفس کی فکر اور آپ اپنا نام لینے کی توفیق اور آپ اپنے دوستوں کو جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں آپ ہم سب کو اپنی رحمت سے کریم ہونے کے صدقہ میں عطا فرمائیے۔ (لذت ذکر، درس مشوی CD5)

یا اللہ! دنیا تو پردیس ہے، یہاں تو چند دن رہنا ہے۔ ہم یہاں عیش والے بن گئے اور مرنے کے بعد قبر و دوزخ کی زندگی ہم نے بھلا دی۔ یہاں کا عیش سب بیکار ہے اس لیے میرے مالک! ہمارے پردیس کی زندگی کو بھی آرام والی، عزت والی بنائیے اور اس سے زیادہ ہماری وطنِ آخرت کی زندگی کو عزت و راحت والی بنائیے۔ جن اعمال سے یہ چیزیں ملتی ہیں ان کی توفیق دیجئے اور ہمیں نفس کی غلامی سے چھڑا کر، شیطان کی غلامی سے چھڑا کر، یا اللہ! اپنی غلامی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے۔ (لا إله إلا الله کی تفریح، حضرت پونس علیہ السلام کا واقعہ CD8)

اے اللہ! ہمارا وطن یعنی جنت بنا دیں کہ ایمان پر خاتمہ کر کے قیامت کے دن بے حساب بخشش فرما کر ہم کو بھی، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کو جنت میں داخل فرمادے۔ (وعظ نمبر 63 حقوق الرجال)

اپنے پیار کے قابل بنا دے!

اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل پر موقوف فرمایا، اور اتباع سنت کا مطلب اپنی صورت و سیرت، ظاہر و باطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اتباع سنت کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر نہیں ملتی، چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الہامی الفاظ میں اس دعا کو اس طرح مانگا ہے کہ:

یا اللہ! ہماری صورت و سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے۔ سو فیصد ہمت دے دے اور روڑے ہٹا دے، اور ہمارے گرد و پیش کو، ہمارے ماحول کو تقویٰ ساز بنا دے کہ تقویٰ آسان ہو جائے۔ آمین (بیوی سے حسن سلوک کی تفریح CD7)

اے اللہ! ہم سب کو مجسم اپنا مقبول اور پیارا بنا لیجئے، اور اپنے پیار کے اعمال بھی دے دیجئے، اور پیار کی صورت بھی دے دیجئے، اور پیار کی سیرت بھی دے دیجئے، اور اپنے پیار کے قابل تقویٰ بھی دے دیجئے، اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کی ہمتِ مردانہ بھی عطا فرما دیجئے، قلب کو طہارت دے دیجئے، قالب کو حفاظت دے دیجئے۔ آپ کی رحمت اور آپ کے دستِ کرم کا انتظار ہے:

غالبی برجا ذباں اے مشتری
شاید در ماندگاں را واخری

اے میرے خریدار! آپ گناہوں کی طرف کھینچنے والی تمام قوتوں پر غالب ہیں۔ گناہوں کے معاملہ میں ہم عاجز و مغلوب ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے کرم سے ہم کو خرید لیجئے، اور ہمیں ہمارے دست و بازو کے حوالے نہ کیجئے ہمارے دست و بازو سے ہمیں کھینچ لیجئے، اور اپنی رحمت سے توفیق و ہمت دے دیجئے۔ مرتے دم تک ایک گناہ بھی ہم سے نہ ہو، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توفیقِ توبہ سے ہمیں اس طرح پاک کیجئے اور اس طرح پیار کیجئے جیسے ماں چھوٹے بچے کو پاخانہ کرنے کے بعد دھلا دیتی ہے اور پھر کپڑے بدل

کر اسے پیار بھی کرتی ہے۔ آپ ہمیں توفیق تو بہ دے کر اپنے آپ رحمت میں نہلا دیجئے، اور ہمارے لباسِ فاسقانہ کو لباسِ تقویٰ سے تبدیل کر دیجئے اور پھر آپ ہمارا پیار بھی لے لیجئے۔ (وعظ نمبر 35 صحبت اہل اللہ اور جدید ٹیکنالوجی)

سارے عالم میں اپنے عاشقوں کا ساتھ نصیب فرما!

قرآن و حدیث میں تقویٰ و طہارت و خشیتِ الہیہ اور گناہوں سے احتیاط کے لئے صحبتِ صالحین اور عاشقانِ خدا کی صحبت کی ترغیب کثرت سے آئی ہے۔ اس لئے اگر کسی کو صحبتِ صالحین کی نعمت مل گئی تو گویا کہ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعمتِ عظمیٰ کو اپنی دعائیں مانگا ہے کہ:

میری زبان میں اور میرے دل میں، اور میرے جسم میں، اور میرے درِ دل میں، اور زبانِ ترجمانِ درِ دل میں اور طاقت و توانائی میں اللہ تعالیٰ! بہت ہی برکت دے دے۔ اے خدا! عالم میں زمین کا کوئی ایک میٹر کا ٹکڑا نہ باقی رہے، جہاں آپ کے عاشقوں کا ایک گروہ اختر کے ساتھ ہو، اور اس گروہِ عاشقان کی صحبتوں کے ساتھ مجھے پھر پھر کے آپ کی عطا کردہ بھیک درِ دل کی سارے عالم میں نشر ہو۔ (وعظ نمبر 47 ہم کس کو ملتے ہیں؟ اور ہم کو کون پاتا ہے؟)

اللہ تعالیٰ! سارے عالم میں مجھے گروہِ عاشقان عطا فرمائے اور اس گروہِ عاشقان کے ساتھ سارے عالم میں اختر سفر مانگتا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی تجلیات کے گیت گاتے ہوئے اختر سارے عالم کو ثابت کر دے کہ اللہ کے نام میں جو مزہ ہے دنیا میں کہیں نہیں پاؤ گے وہ بے مثل ہے اس کا مزہ بھی بے مثل ہے۔

وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے

مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

(مصائبِ آسمانیہ اور زمینہ سے نجات CD3:25-09-1982)

اللہ! آپ کے عشاق شرق و غرب، شمال و جنوب زمین کے جس حصہ میں پوشیدہ ہوں، اے خدا! ان کو پہنچانے کی مجھے بصیرت عطا فرما، ہم سب کے لئے ان کی لقاؤ اور التقاء کو مقدر فرما دے۔ یا اللہ! ہم اپنی نادانی سے ان سے نہ بھی ملیں تو آپ ان کو ہم پر کریم فرما کر ان کی ملاقات ہمارے لئے مقدر فرما اور ان کی صحبتوں سے ہم کو

آہن کہ پیارس آشنا شد

فی الفور بصورت طلاء شد

کا مصداق بنا۔ جیسے لوہا پیارس پتھر سے مل کر سونا بن جاتا ہے ہمیں ایسے عاشقوں سے ملاقات کر دے جن کے دلوں سے ہمارے دل مل کر سونا بن جائیں یعنی اے اللہ! آپ کے عاشق اور دیوانے ہو جائیں اور متقی ہو جائیں اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے طرز عمل پر کر دے۔ یا اللہ! ہمیں اولیاء کے اخلاق و اعمال عطا کر دے، ان کا جیسا دل عطا کر دے۔ آمین

اپنا با وفا بنا دے اے میرے مولیٰ!

اپنے محسن سے بے وفائی اور اس کی نافرمانی کرنا فطرت انسانیہ کے خلاف ہے۔ اور حق تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ انسان کی محسن اور مشفق ہے۔ لہذا اس ذات کی نافرمانی اور احکامات خداوندی کی مخالفت کس قدر سنگین جرم اور بے وفائی ہے! چنانچہ محسن حقیقی کی فرماں برداری اور وفاداری کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اردو عربی دعاؤں میں نہایت درد دل سے مانگا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ! ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور تقویٰ والی زندگی عطا فرما، اور غیر اللہ سے ہمارے قلب و جان کو پاک کر دے، اور اے خدا! ہم سب کو سو فیصد وفادار بنا دے، بے وفائی کے کمینے پن سے ہماری جانوں کو پاک فرما۔

(06-07-1997:نمبر 02)

اے اللہ! ہم آپ کو ناخوش کر کے جس وقت حرام خوشیاں درآمد کرتے ہیں ہمارے کمینے پن کی کوئی انتہاء نہیں ہوتی، کچھ تو حیا و شرم اور خوف ہم سب کو اتنا نصیب فرما دیجئے کہ

وہ خوف آپ کے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان میں حائل ہو جائے۔

اللَّهُمَّ اقْسِمْنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَانَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ.

اے اللہ! مجھ میں اور گناہوں میں اتنا فاصلہ فرما جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ

ہے۔ آمین (04-07-1997)

گناہوں کی عادت چھڑا اور معافی عطا فرما!

یا اللہ! هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ كَتَحْتَ هَم سَبَّ آفٍ سَمِ رَحْمَتِ جَذْبِ كِي فَرِيَادِ

کرتے ہیں۔ اور اُس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے بدبختی اور شقاوت سے نجات ملتی

ہے۔ (وعظ: تجلیات جذب نمبر 03)

خدائے تعالیٰ! ہم میں جس کو جو گناہ کا کینسر ہو، بدنظری، لڑکوں سے عشق بازی،

لڑکیوں سے، ٹیڈیوں سے تاک جھانک کرنا، جھوٹ بولنا، ٹیلیویشن کے پروگرام دیکھنا، وی

سی آر، ننگی فلمیں، ویڈیو، تمام جتنے بھی یا اللہ! آپ کے غضب اور قہر کے اعمال ہیں۔ ہم سب

کو، ہمارے گھر والوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خواتین کو برقعہ پہننے کی توفیق عطا

فرما۔ یا اللہ! ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی ﷺ کا جی خوش کریں اور اپنی حرام

خوشیوں سے توبہ کر لیں۔ (وعظ: تجلیات جذب نمبر 04)

یا اللہ! جن لوگوں نے داڑھی ابھی نہیں رکھی ان کو رکھنے کی توفیق عطا کر دے،

اور ایسی محبت دیدے جو بے تابانہ ہو کر تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لے

اور قیامت کے دن اے خدا! جب یہ حاضر ہوں تو تیرے حضور میں یہ شعر پیش کر دیں۔

ترے محبوب کی یاربِ شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں

نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اے اللہ! سو فیصد اپنی غلامی اور فرماں برداری
کی حیاتِ طیبہ نصیب فرما دیجئے۔ (تین قسم کے گناہ پر چار قسم کا عذاب GD7)

ہم سب کو اپنی راہ کا مرد بنا دے، رجال بنا دے جس کو تو نے قرآن میں نازل
فرمایا ہے: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - اللہ! ہم سب کو
اپنے راستے کا مرد بنا دے گناہ چھوڑنے میں ہمتِ مردانہ عطا فرما دے۔ (غفلت

کا علاج 1982-1-30:CD3)

اے خدا! گناہوں کو چھوڑنا نہ یہ کہ آسان، بلکہ لذیذ فرما دیجئے۔ اور ہم سب کو اللہ
والی حیاتِ نصیب فرما دیجئے۔ اے خدا! گناہوں کو چھوڑ کر ہم ایک شکر نہیں، کروڑ کروڑ شکر ادا
کریں۔ جس گناہ سے آپ ہمیں نجات عطا فرمادیں تو اے خدا! ہم اس عنوان سے شکر ادا
کریں گے کہ اگر ساری دنیا کے ذرے ذرے زبان بن جائیں ساری کائنات کے ہر ذرہ
کی زبان سے اے اللہ! ہم آپ کا شکر ادا کریں تو ایک گناہ سے نجات کا شکر یہ ہم ادا نہیں کر
سکتے۔ اس لیے سارے گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ (وعظ نمبر 21 اہل اللہ اور صراطِ مستقیم)

اگر کہیں خطا بھی ہو جائے بشریت کے طور پر، تو استغفار و توبہ، اتنا رونا، اتنی آہ
وزاری نصیب فرمائیے کہ آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کے دریا میں جوش آجائے کہ
اے میرے بندے! اب بس کر، بہت روچکا زیادہ روئے گا تو سر میں درد ہو جائے گا۔

اے اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم
اے میرے اشکِ ندامت اب تو تھم

کی آواز آنے لگے اتنا زیادہ رونے کی توفیق ہو کہ اللہ کی رحمت کے دریا میں

جوش آجائے۔ آمین (تعمیر و بن آخرت CD3، 25-10-1992)

(ماہ ربیع الاول کی ایک دعا) اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں ہم کو تمام گناہ چھوڑنے کی

ہمت عطا فرمائیں تاکہ ہم سچے عاشقِ رسول بن جائیں۔ (وعظ نمبر 36 عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم)

اے اللہ! مجھ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اور میرے دوستوں کو بھی حوصلہ عطا فرما۔

جانوروں اور سوروں اور کتوں کی سی زندگی سے نجات عطا فرما کر اللہ والی حیات ہم سب

کو عطا فرما۔ (وعظ نمبر 37 منزل قرب الہی کا قریب ترین راستہ)

اے اللہ! جلد وہ لمحہ عطا فرما، وہ گھڑی ہمیں عطا فرما کہ ہماری زندگی سو فیصد نفس

و شیطان کی غلامی سے نکل کر اے اللہ! آپ کی اور آپ کے پیارے نبی ﷺ کی غلامی

میں آجائے۔ اے اللہ! آپ کی بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ہماری گردن

میں ڈال دے تاکہ سر سے پیر تک ہم آپ کے ہو جائیں۔ (وعظ نمبر 38 فیضانِ حرم)

حقوق میں کمی کو معاف فرما!

دنیا میں حقوق کی دو قسمیں ہیں (۱) حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور (۲) حقوق العباد یعنی بندوں کے

حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتے ہیں مگر بندوں کے حقوق جب تک صاحبِ حق معاف نہ کرے معاف

نہیں فرماتے۔ لہذا حقوق میں کمی اور حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کے لئے مختصر اور آسان دعا حضرت والارحمۃ اللہ علیہ

نے مانگ کر ہمیں سکھائی ہے:

یا اللہ! ہم نے آپ کی مخلوق میں کسی پر بھی ظلم کیا ہو، ایک چیونٹی بھی ہم سے کچل گئی

ہو ہماری نالائقی اور غفلت سے، یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، یا خاندان والوں کو، یا ماں باپ

کو ناراض کیا ہو تو ہم کو تلافی کی توفیق عطا فرما۔ ان سے معافی مانگنے کے لئے رجوع ہونے

کی توفیق عطا فرما۔ اپنی مخلوق کے معاملہ میں ہمارے کفیل ہو جائیے۔ قیامت کے دن ان

سے معافی دلانے کے لئے کفالت قبول فرمائیے، اور جو زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں بھی معاف کر دیجئے، اور اپنی مخلوق کے حقوق میں بھی معاف کر دیجئے۔ (وعظ نمبر 08 حقوق النساء)

اور آپ کے حق میں ہم سے جو نالائقیات ہوئیں، نماز روزہ وغیرہ تو آپ تو ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے اور جو قضا ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی قضاؤں کے ادا کرنے کی ہمت و توفیق دے دیجئے۔

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَكْفُلْ بِرِضَا خُصُومِنَا“ اے اللہ! ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے فریقوں کو جن کا حق رہ گیا ہم سے، اور ہم ادا نہیں کر سکتے، اب مجبوری ہے، پیسہ ہی نہیں ہے یا وہ مر گئے انتقال کر گئے یا ان سے ملنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو جس پر ہم سے زیادتی ہوئی آپ قیامت کے دن ہماری تینوں قُل کا ثواب دے کر قیامت کے دن ان سب کو بھی راضی کر دینا، راضی نامہ کر دینے کی کفالت قبول کر لیجئے۔ آمین (غیبت کی حقیقت 1992، CD3)

فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما!

اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اگر کمی کوتاہی ہوگئی اور وہ ذمہ میں باقی رہ گئیں، تو اس کو قضاء کرنا ضروری ہے۔ اس لئے قضا کرنے کی توفیق کے لئے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہئے؟ اس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہمیں سکھلایا:

یا اللہ! جن کے ذمہ نمازیں قضا ہیں، ان کو قضائے عمری کی توفیق عطا فرما دیجئے، جن کے ذمہ روزے قضا ہیں، ان کو ہفتہ میں کم سے کم دو دن پیر، جمعرات کو روزے کی قضا کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اگر قضا میں پوری ہونے سے پہلے پہلے ان کا وقت آجائے تو اے اللہ! ان کی نیت کی برکت سے آپ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر درگزر فرما دیجئے۔ جس کے ذمہ جو بھی فرائض ہیں سب

کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین (مصائب اور پریشانی کا حل CD4)

حج مبرور نصیب فرما!

اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں۔ جن میں سے ایک رکن بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ جس کی اہمیت و حکم قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں متعدد بار آیا ہے۔ چنانچہ حج کی توفیق ملنے کے لئے، حج کا ارادہ کرنے والوں کے لئے، حج کے تمام مراحل اور امور آسان ہونے کے لئے، اور مزید یہ کہ حج مبرور نصیب ہونے کے لئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کی یہ مبارک دعا ان شاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوگی:

جو لوگ حج کے لئے جانا چاہتے ہیں یا اللہ! جس کے لئے آپ نے اس طرح سے اعلان فرمایا کہ: ”اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور جو استغناء کرے گا، اور انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ہے“۔ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے حج کی درخواستیں دی ہیں اللہ تعالیٰ! سب کو آسانی سے حج نصیب فرمائے۔ حج مقبول نصیب فرمائے، مشکلات رفع ہو جائیں۔ جنہوں نے حکومت سے اجازت مانگی ہے ان کو اجازت مل جائے۔ آرام اور عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے، اور جنہوں نے سُستی یا مشغولی سے حج فرض ادا نہیں کیا ہے، اور جن کے بارے میں حضور ﷺ نے یا اللہ! اتنی سخت وعید فرمائی کہ: ”جو سُستی کی وجہ سے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے“۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اے اللہ! جن پر حج فرض ہے ان کو اپنی رحمت سے جلد حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آسانی فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ (وعظ نمبر 04 علاج الغضب)

نافرمانی والے اعمال سے حفاظت فرما!

دور حاضر چونکہ دور نبوی علیہ السلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور خیر و ہدایت کے چراغ مند ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور گمراہی کے کیڑے اور جراثیم ہر طرف پھیلتے جا رہے ہیں، اس طرح کے بھیا تک معصیت کے ماحول میں گناہوں کے اندھیرے سے حفاظت کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا مانگی ہے جس کو ہمارے

پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پیار بھرے انداز میں نقل فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس دعا کو اپنے معمولات میں لانا چاہئے:

یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنے مقبول اور اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمارے قلب میں ان کی نفرت، کراہت نصیب فرما دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ! جیسے ماں چھوٹے بچہ کی حفاظت کرتی ہے، (بچہ) اپنی طاقت سے چاہے کھڑا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ مٹی کھانے کا عادی ہو اور اگر کھا لیتا ہے تو (ماں) ہاتھ ڈال کر اس کے حلق سے نکال لیتی ہے، اور اگر پیٹ میں داخل کر لیتا ہے تو ڈاکٹر سے دوا دلوا کر اس کو پیٹ سے نکلاتی ہے۔ اے خدا! ہم سب کی اسی طرح حفاظت فرما جیسے ماں اپنے چھوٹے بچہ کی حفاظت کرتی ہے کہ کبھی نالی میں ہاتھ ڈال رہا ہے کبھی پاخانہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے کبھی لیٹرین میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ ہمارے نفس کا یہی حال ہے کہ ہم گندے گندے اعمال میں اپنے ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةَ الْوَلِيْدِ۔ یا اللہ! اپنے نبی کی یہ دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما کر ہم سب کی یا اللہ! ایسی حفاظت فرما جس طرح سے ماں اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ (تعلق مع اللہ، سبب حصول

قرب الہی CD4-193-11)

عشق مجازی سے نجات عطا فرما!

دنیا میں کوئی آدمی اپنی اچھی چیز کو گندے برتن میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ پس حق تعالیٰ شانہ جنہوں نے انسان کو اس ذوق کی بھیک دی ہے، وہ خود کیسے اس دل میں تجلی فرمائیں گے جو گلنے اور سڑنے والی لاشوں کے عشق سے بھرا ہوا ہو؟ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ: دل کو غیر اللہ کی محبت اور لیلائے کائنات کے فانی عشق سے صاف کرنا پڑے گا، تاکہ مولائے کائنات اس دل میں جلوہ افروز ہوں۔ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بصورت دعا نہایت ہی جامع انداز میں پیش فرمایا ہے:

اے اللہ! اے خالقِ جنت! اے خالقِ لیلائے کائنات! اے مولائے کائنات! ہمیں دنیا کی لیلائے کائنات سے بے نیاز فرما دیجئے۔ اپنے قرب کی تجلیات میں ہم کو مشغول فرما، اور ان مُردوں کے چکر سے ہم کو نجات دے، اور ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی نجاستوں سے پاک فرما، اور ہم سب کو ذاکر، شاغل بنا دے۔ (وعظ نمبر 10 منازل سلوک)

خوش گوار ازدواجی زندگی نصیب فرما!

آج کل دنیا کی محبت کی وجہ سے گھریلو اختلاف اور ناچاقیوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا گھریلو مسائل اور ازدواجی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل ہونے کے لئے حضرت والا نے بہت ہی عمدہ و پر لطف دعا مانگی ہے:

اللہ تعالیٰ! ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور بیویوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں۔ اے اللہ! آپ اس (ہونے والے) نکاح میں برکت ڈال دیجئے، اولاد بھی نیک و صالح عطا فرمائیے، اور دونوں میں خوب محبت سے گزارا ہو۔ کبھی کسی قسم کی نا اتفاقی نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ! انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دے اور اس مسجد میں سنت کے مطابق جو نکاح ہوا ہے اللہ! اس کو قبول فرمائے۔ (حضرت والا نے سامعین سے فرمایا) دیکھو دوستو! ان کے (دولہا کے) گلے میں کوئی ہار نہیں ہے، ہار وغیرہ سب رسومات ہیں، فضول رسمیں ہیں، پیسے کا ضیاع ہے۔ یہ ہار نے کا دن نہیں ہے، جینے کا دن ہے، جو ہار پہنتا ہے وہ گویا اپنے ہار نے کا سامان کر رہا ہے اور دیکھئے! پاجامہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہے ماشاء اللہ:

جن کی بیٹیوں کا رشتہ ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ! ان کا جلد سے جلد اچھا رشتہ لگا دے، اور حُسن و خوبی سے اس کی تکمیل فرما دے۔ اور جن کی بیٹیاں بیاہ چکی ہیں، مگر شوہروں کے ظلم سے غمزدہ ہیں، اللہ! ان کے شوہروں کو نیک اور مہربان کر دے، اور جن کی بیویاں ستار ہی ہیں اللہ! ان کے شوہروں کو بھی مظلومیت سے عافیت نصیب فرما،۔ (وعظ نمبر 07 خوشگوار ازدواجی زندگی)

جو بیویاں ظالم ہوں ان کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کو نہ ستائیں، انہیں اپنے شوہروں کی خدمت اور عزت کی توفیق عطا فرما۔ جس کو داماد ظالم ملا ہوا ہے، اس کو ظلم سے توبہ نصیب فرما کر مہربان کر دے، اپنی رحمت سے شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔

آئین (بیان جذب، نمبر 08-3 GD)

اولاد اور اہل خانہ کے حق میں دعائیں

اپنی اولاد اور اہل خانہ کے حق میں نیکی کی توفیق اور گناہوں سے حفاظت کی دعائیں کرنا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا شعار رہا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف دعاؤں کے بکھرے موتیوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے:

اے اللہ! اپنے دستِ کرم سے اختر کو، اس کی اولاد کو، آپ سب کو، آپ کی اولاد کو کامل ایمان و یقین عطا فرما دے۔

۔ دست بکشاجانب زنبیل ما

ہماری ان جھولیوں کی طرف اپنی مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے۔ ایسا ایمان و یقین عطا فرمائیے کہ اختر کی زندگی کی ہر سانس، میری اولاد کی، آپ سب کی، ہم سب کی، ہمارے خاندان والوں کی ہر سانس اے اللہ! آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ (وعظ نمبر 62 ثبوت قیامت اور اس کے دلائل)

اللہ تعالیٰ! عالم باعمل ہمارے سب پوتوں، نواسوں کو، ہمارے دوستوں اور ان کی اولاد سب کو صاحبِ نسبت اللہ والا بنا دیجئے۔ حافظ، عالم باعمل بنا دیجئے۔ یا اللہ! ہم سے دین کے کام لے لیجئے، اور ہماری ہر سانس کو توفیق نصیب فرمائیے کہ آپ کی ذاتِ پاک پر اخلاص کے ساتھ فدا ہو جائے۔ آپ شرفِ قبول عطا فرمائیں۔ (وعظ نمبر 64 نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے)

ابھی جوانی ہی سے ہمارے بچوں کو تقویٰ دے دیں، (وعظ نمبر 81 طریق الی اللہ)

ہمیں اور ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرمادے، اور وی سی آر کی لعنت سے، ٹیلی ویژن کی لعنت سے اللہ! ہمارے گھروں کو پاک کر دے اور ہماری بیٹیوں کو دس سال کے بعد بے پردہ اسکول بھیجنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! جن گھروں میں شرعی پردہ ہو جائے ان کی بیٹیوں کو نیک رشتہ عطا فرمادے۔ جن کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ”بہشتی زیور“ پڑھائیں، نیک بنائیں۔ اے اللہ! ان کو نیک شوہر عطا فرمادے، دین دار شوہر عطا فرمادے۔ اور جو مرد داڑھی رکھ رہے ہیں ان کو بھی یا اللہ! ایسی بیویاں عطا کر دے جو نیک ہوں۔

اے خدا! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمادے۔ یا اللہ! یہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کا خالی نام رہ گیا ہے، آج اسلام ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ کس طرح سے رات دن سڑکوں پر عورتیں لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ اے خدا! ہم سب کو توفیق دے، اے اللہ! ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما۔ (وعظ نمبر 63 حقوق الرجال)

بے روزگاری کا علاج اور روزی میں برکت کی دُعا

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آیت قرآنیہ سے تقویٰ کی افادیت اور اس کے ثمرات کے ساتھ ساتھ ایک مجرب وظیفہ بھی بے روزگار افراد کے لئے بطور علاج بیان فرمایا ہے:

ایک صاحب نے پرچہ دیا کہ بے روزگار ہوں دُعا فرمادیجئے۔ فرمایا: کہ جتنے بے روزگار ہیں، وہ تقویٰ اختیار کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے: ”جو متقی ہوگا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا“ لہذا داڑھی رکھو، اور ٹخنے کے اوپر پاجامہ رکھو۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھو، اور کسی کو ستایا ہو تو اس سے معافی مانگو۔ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، متقی بن جاؤ۔ روزی نہ پاؤ تو پھر کہنا! اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاتا ہوں: ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“

(سورۃ الطلاق، آیت: ۲، ۳) جو تقویٰ سے رہے گا اللہ اس کو مصیبت سے خلاصی دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے صوفیوں سے، مولویوں سے اور طالب علموں سے کہتا ہوں کہ: روزی کی فکر نہ کرو، تقویٰ کی فکر کرو کہ تمہارے تقویٰ پر لقوہ نہ گرے۔ یہ فتویٰ سن لو! جو لوگ مقروض ہیں اور دین دار بھی ہیں ”یَا مُغْنِی“ پڑھیں (۱۱۱) دفعہ لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو بھی ”یَا مُغْنِی“ پڑھو، اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ ان شاء اللہ! گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جائے گی اور قرض بھی ادا ہو جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، لیکن تقویٰ سے جلد کام بن جائے گا تا کہ رحمت کے ٹرک کو سائیڈ مل جائے اور گناہ کے غضب کا ٹرک بیچ میں حائل نہ ہو، اور دُعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ! ہم سب کو برکت والا رزق عطا فرمائے۔ آمین (وعظ نمبر 54 تو بہ کے آنسو)

یا اللہ! ہماری روزیوں میں برکت کے ساتھ ساتھ وسعت بھی عطا فرما۔ خاص کر جو بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ان کی روزی بڑھادے، کیوں کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! بڑھاپے میں ہمارے روزی کو بڑھادے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں روزی زیادہ مانگنا چاہیے۔ (وعظ نمبر 11 تجلیات جذب، حصہ اول)

یا اللہ! اپنی رحمت سے اپنی زمین و آسمان کے سارے خزانے ہم پر برسا دیجئے کیوں کہ آپ اپنے خزانوں سے مستغنی ہیں۔ دُنیا کے بادشاہ تو اپنے خزانوں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنے اور اپنے شاہی خاندان کے لیے ان کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ اے خدا! آپ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں، اپنے خزانوں سے مستغنی ہے، اپنے زمین و آسمان کے سارے خزانے ہم سب پر اپنی رحمت سے برسا دیجئے۔ (وعظ نمبر 61 مقامِ اِخْلَاصِ وَ مَحَبَّتِ)

آپ اس آبخارِ رحمت کے مالک ہیں جو غیر محدود رحمت کا آبخار ہے، ہم سب پر اپنی رحمت کا آبخار انڈیل دیجئے، اور ہمیں اللہ والا بنا دیجئے، دنیا بھی دیجئے اور آخرت بھی دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا بھی خوب خوب دے دے کہ دنیا دار ہمیں حقیر نہ سمجھیں، علماء

پریشان ہیں، اے اللہ! ہمیں اتنی دنیا دے کہ دنیا دار بھی ہمارے اوپر رشک کریں، اور آخرت کا مزہ بھی دے اور اپنے قرب کا مزہ اتنا مسترد دے کہ ہمیں کبھی احساسِ کمتری نہ ہو۔ آمین (وعظ نمبر 65 لذت قرب خدا)

قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما!

یا اللہ! جس کو جو جائز حاجت ہو، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو یاربِّ الْعَالَمِینَ! جلد سے جلد پورا فرما دے، اور جو مقروض ہوں اللہ تعالیٰ! ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد ادا فرما دے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کے آپ مالک ہیں، اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں۔ آپ کے خزانے ہم فقیروں کے لئے وقف ہیں۔ بِحَقِّ ”وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ اے اللہ! اس آیت کے صدقہ میں اختر پراس کی اولاد پر اور اس کے دوستوں پر اپنا خزانہ برسا دے، اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کی توفیق عطا فرما، اور سارا قرضہ بھی ہم سب کا ادا فرما دے۔ اے اللہ! آپ کی شان وہ ہے کہ مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے مبدل کردہ خاک کے راہِ زور

اے اللہ! بعض مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں اور

خاک دیگر را نمودہ بوالبشر

اور کسی مٹی کو آپ انسان بنا دیتے ہیں۔

کسی مٹی کو سونا اور کسی مٹی کو انسان، اتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اپنی اس قدرتِ قاہرہ کے صدقہ میں ہم سب کو تمام قرضوں سے نجات اور ہماری روزیوں میں برکت کے ساتھ ساتھ وسعت بھی عطا فرما۔ آمین (وعظ نمبر 11 تجلیات جذب، حصہ اول)

ہر پل خوشیاں دکھا!

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے راحت و سکون اور آرام دو جہاں کی دولت کے حصول اور دنیاوی پریشانی اور بے چینی سے دوری چاہنے والوں کے لئے یہ مختصر و آسان اور جامع دعا مانگی ہے:

یا اللہ! جن کے دل میں ہر وقت پریشانی، وسوسے اور غم و حزن، مایوسیاں طاری ہوں ان کے دلوں میں اپنی رحمت کی امیدوں کے بے شمار چاند اور بے شمار آفتاب روشن کر دیجئے۔ آمین (مومن کی شان CD5)

نعمت کے چھن جانے سے پناہ چاہتے ہیں

حضرت والا نے اپنے مواظب میں فرمایا ہے کہ: گناہوں میں مسلسل ابتلاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر انعامات کی بارش روک دی جاتی ہے۔ اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لئے نعمت کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے مرشد و شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اردو میں، بہترین تشریح کے ساتھ مانگ کر ہم سب کے لئے آسانی فرمادی:

اللہ! کوئی نعمت ہماری نالائقیوں سے نہ چھینے، اللہم! انا نعوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، اے اللہ! ہم سب کسی نعمت کے زائل ہونے سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہماری نالائقیوں سے ہم کو معاف کر دیجئے، مگر اپنی کسی نعمت کو ہم سے نہ چھینے، اور خاص کر استقامت علی التقویٰ اور تقویٰ کی نعمت نہ چھینے اور جتنی نعمتیں دنیا اور دین کی ہیں ایک نعمت سے بھی ہم کو محروم نہ فرمائیے۔

دست بکشاجانب کشتول

ہمارے کاسہ گدائی کی طرف اپنی مہربانی کا ہاتھ بڑھائیے۔ ہم کو دنیا بھی خوب دے دیجئے، اور آخرت بھی خوب دے دیجئے یعنی دنیا کا بھی عیش، آرام، راحت اور روزی خوب فراغت دیجئے کہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آمین (تہذیب و تمدن آخرت CD3، 25-10-1992)

پاکستان اور عالمِ اسلام کے لئے دعا کیجئے.....

حدیث پاک میں مذکور ہے کہ: ”تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اگر جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف ہو تو دوسرے اعضاء میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے“ اسی طرح اگر عالمِ اسلام میں کہیں بھی مسلمانوں کو غم و تکلیف پہنچے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اس تکلیف کا شدید احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے اپنے شہر اور اپنے ملک خصوصاً مملکتِ خداداد پاکستان کی سلامتی اور داخلی و خارجی سازشوں سے حفاظت، اور عالمِ اسلام کی حفاظت و سلامتی اور ترقی کے لئے دعائیں مانگی ہیں۔ جو انتہائی جامع اور مفید ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

اے اللہ! ہمارے شہر کو، پاکستان کے ہر شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ عافیت کا شہر بنا دے۔ اے خدا! تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہم مجبور ہیں، آپ مجبور نہیں۔ ہم مشکل میں مبتلا، آپ کی لغت میں مشکل نہیں۔ آپ غیب سے انتظام فرمادیں۔ اے اللہ! ان اولیاء اللہ کے صدقہ میں جن کی دعاؤں سے پاکستان کی تعمیر ہوئی اے اللہ! آپ ان کی دعاؤں کے صدقہ میں آپ اپنی رحمت سے ارادہ فرما لیجئے کہ اس مملکت کو فلاحی مملکت، عافیت کی مملکت بنا دیجئے۔

(وعظ نمبر 20 نزول یکینہ)

یا اللہ! سعودی عرب کو اور حجاز مقدس کو، حرمین شریفین کو اپنی خاص حفاظت میں قبول فرمائے۔ یہودیوں کی چالوں سے اللہ! بچائے۔ ان کی تمام چالوں کو اللہ دفن کر دے، برباد کر دے، نامراد، خائب و خاسر کر دے۔ یا اللہ! جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو عزت و عافیت نصیب فرما، کافروں کی چالوں کو، کافروں کی سازشوں کو اے اللہ! تو اپنی قدرتِ قاہرہ کے ڈنڈے سے تباہ و برباد و دفن کر دے۔ (وعظ نمبر 07 خوشگوار از دو اجی زندگی)

چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے پورے پاکستان کو بلکہ پورے عالم کو عافیت نصیب فرمائے۔ مجھ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اور سارے عالم کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ! عافیت دارین نصیب فرما۔ اہل کفر کو اے خدا! اہل ایمان بنا دے، اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دے، اہل بلا کو اہل عافیت بنا دے، اہل

مصیبت کو اہلِ راحت بنا دے، اہلِ مرض کو اہلِ شفا بنا دے۔ (وعظ نمبر 11 تجلیاتِ جذب، حصہ اول)

اے اللہ! جتنے بھی آزادی اور دین کی جدوجہد کرنے والے محصور ہیں، اُن کی مدد کے لیے غیب سے فرشتے بھیج دے۔ اے اللہ! اپنی قدرتِ قاہرہ کے ڈنڈے سے کفار کو پاش پاش کر دے، اور محاصرہ توڑ دے۔ اے اللہ! دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، سارے عالم میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ! اُن کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ اختر کو اور ہم سب کو فلاحِ دارین عطا فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو فلاحِ دارین عطا فرما۔ (وعظ نمبر 12 تزکیہ نفس)

یا اللہ! آپ اپنے قدرت کا کرشمہ دکھا دیجئے اے اللہ! اسلام کے دشمن اور ملک پاکستان کے دشمن اور بے حیائی، بدمعاشی جن کی گھٹی میں سب پڑا ہوا ہے، اے خدا! اس ذلت سے ان کو شکست دے۔ ان کی تاریخ میں ایسے سیاہ ورق قائم ہو جائیں کہ قیامت تک وہ سیاہ اور اراق مٹ نہ سکیں، ایک ایک کو، کسی کو کینسر، کسی کو کوڑھ میں مبتلا کر دے جو بھی تیرے اسلام کے دشمن ہیں یا اللہ! اول تو ان کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اگر آپ کے علم میں ان کی ہدایت منظور نہیں، مقدر نہیں تو کسی کو نہ چھوڑ۔ اللہ! ایک ایک کو ذلیل و خوار، نامراد کر۔ جتنے بھی اس وقت تیرے لوگ کھڑے ہیں آپ کے علم میں اے خدا! جو مفید ہوں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کے دین پاک کے لیے اللہ! ان کو جتا دے، اور ان ذلیل و خوار لوگوں کو شکست دے جو آپ کے دین کے دشمن، اور ملک پاکستان میں فساد پھیلا نا چاہتے ہیں۔ اللہ! اپنی رحمت سے غیب سے آپ تماشہ دکھا دیجئے، ہم تو عاجز ہیں لیکن آپ تو عاجز نہیں، آپ تو قادرِ مطلق ہیں۔

ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ! اپنی رحمت سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کو اللہ! محفوظ فرما، بہت سے اولیاء اللہ کی دعاؤں سے یا اللہ! یہ پاکستان بنا، اس کو سلامت فرما۔ اللہ! دشمن پر خوف طاری کر دے، حملہ کے وقت مجبور و مضطر کر دے، اے اللہ! فلسطین کو یہودیوں کے شر سے نجات نصیب فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوؤں اور ڈاکوؤں کے شر سے

محفوظ فرما۔ (مقاصد بعثت نبوت CD5)

سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما۔ مچھلیوں کو پانی میں امن دے دے، چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں امن و عافیت دے دے، سارے عالم پر رحمت و عافیت کی بارش کر دے۔ دنیا سے ظلم کو اٹھالے۔ (توبہ کے فضائل، CD5)

عالمِ اسلام کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے۔ ان کے خیالات اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دے، اور اسلامی سلطنت قیامت تک کے لیے بنا دے۔ اے اللہ! اگرچہ ہم آپ کے نالائق بندے ہیں، لیکن کافر ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی نالائقی سے آپ کے نہیں بن سکے، لیکن کافر سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ کے ہیں۔ اے اللہ! اپنی اس نسبت کی لاج رکھ لے، کافروں کے اس خیال اور اس نظریہ سے کہ وہ ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں۔ ہماری آبرو کی لاج رکھ لے، اور ہم نالائقوں کو لائق بھی بنا دے۔ (وعظ نمبر 30 تشنگان جام شہادت)

ہماری بحریہ، بڑی اور فضائیہ کو اللہ تعالیٰ! عظیم الشان طاقت دے اور اللہ تعالیٰ! ہماری تمناؤں کے مطابق فتح عظیم چاروں طرف عطا فرمائے، اور دنیا بھی عطا فرما اور دین بھی عطا فرما۔ اور اس ملک پاکستان کو زمینی دولتوں، فضائی دولتوں اور سمندری دولتوں سے مالا مال فرمائے، اور اپنے تعلق کی دولت سے بھی ہم سب کو مالا مال کر دے کہ اصل دولت یہی ہے۔ (وعظ نمبر 37 منزل قرب الہی کا قریب ترین راستہ)

یا اللہ! آپ کے اولیاء اللہ کی دُعاؤں سے، ان کی آہ و زاریوں سے، ان کی اشک بار آنکھوں سے یہ پاکستان بنا ہے۔ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے خدا! غیب سے اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دیجئے، اور جو پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، ان کو خلاص عطا فرما دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو ان کے شر کو ہمیشہ کے لیے دُفن فرما دیجئے۔ (ٹیس کی حقیقت اور اس کے شر سے حفاظت CD6)

جن کی نظر پاکستان پر غلط ہے، خواہ کوئی بھی ہو، اللہ! ایسے دشمنانِ پاکستان کو غیب

کے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ان کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دے۔ آمین! (توبہ کے فضائل، CD5)

اے اللہ! ہمارے پاکستان خصوصاً کراچی میں جو قتل، چوری، ڈاکے ہو رہے ہیں کہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے بھی یا اللہ! ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے سوائے آہ کی لاٹھی کے۔ ہماری آہ ہماری لاٹھی ہے، اس کو آپ قبول فرماتے ہوئے امن و امان قائم فرمادیجئے۔ غیب سے اسباب پیدا فرمادیجئے۔ حکومتِ عادلہ عطا فرمائیے جو ہمارے جان و مال کا اور پاکستان کا تحفظ کر سکے۔ اے اللہ! اس کا غیب سے انتظام فرمائیے، اور سارے صوبوں میں کلمہ کے نام پر محبت پیدا کر دیجئے۔ ہم سب کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپس میں محبت عطا فرمائیے۔ (وعظ نمبر 61 مقامِ اخلاص و محبت)

عصبيت سے ہم کو پاک فرمادے، لسانیت سے صوبائیت سے ہمارے قلوب کو پاک فرمادیجئے۔ امن، عافیت و تحفظ پورے مُلکِ پاکستان کو نصیب فرمادیجئے۔ (نفس کی حقیقت

اور اس کے شر سے حفاظت CD6)

یا اللہ! ہمارے شہر کراچی میں اور شہر حیدرآباد میں کیا نظر لگ گئی، کیسا پیارا شہر تھا! کیسے برکت والی یہ بستیاں تھیں! جہاں بے روزگار روزی پا جاتے تھے، اور ہر طرف راحت و سکون، مسجدوں کی اذانیں، آج اس میں کسی وقت کوئی خیریت سے نہیں ہے؟ کہاں کیا قتل، کیا ڈاکہ پڑے گا؟ اللہ! اپنے اس شہر کو، حیدرآباد کو، پورے پاکستان کو امن و عافیت کا شہر بنا دے، امن و عافیت کا ملک بنا دے، مسلمانوں کو توبہ اور اپنا خوف نصیب کر دے، مسلمان مسلمان کو مارتا ہے کس بے دردی سے، یا اللہ! قیامت کے دن کی پیشی کا اور اپنا خوف سب کو نصیب کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور کلمہ کی بنیاد پر ہم سب کو آپس میں محبت کرنا نصیب کر دے اور پاکستان کو مضبوط فرمادے۔ جو دشمن ملک ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی خاص طور سے اللہ! حفاظت

فرمادے اور ایسے دشمن ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کمزور کر دے۔ اور ہمارے پاکستان کو اور جملہ عالم کے مسلمانوں کو ہر طرح سے حفاظت اور عافیت اور امن و تقویٰ اور دونوں جہان کی صلاح و فلاح سے مالا مال کر دے۔ (پرو، CD3، 1992)

جہاں جہاں قتل و خون اور ڈاکے ہیں ان کو امن و امان اور ڈاکوؤں کو توبہ عطا فرمادے۔ اگر آپ کے علم میں ہدایت ان کی منظور نہیں تو ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ! پورے ملک کو سلامتی، بقا عطا فرمادے۔ (توبہ کے فضائل، CD5)

ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی امن و عافیت نصیب فرمائیے، چوری، قتل، ڈاکہ، اغواء سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب فرمادیجئے، اور جو لوگ ہمارے ملک کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں، ایسے حکمران عطا فرمائیے جو سلامتی پاکستان کی ضمانت کو چاہیں، اور امانت کے حقدار ہوں، اور صحیح طریقہ سے مخلوق کو عافیت سے رکھنے کی فکر ان کو ہو، یا اللہ! جتنے بچے اغواء ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں، اور ماں باپ بے پناہ پرور رہے ہیں، بچے بھی وہاں غمزدہ ہیں ماں باپ سے دور۔ خدا تعالیٰ! اپنی رحمت سے جلد ہم پر اور (ان) سب پر رحم فرما دیجئے۔ (اللہ کے مقبول بندوں کی ادا، CD6)

ہمارے اغواء شدہ طالب علموں کو جلدی ان کے گھروں سے ملا دیجئے، اور ان ظالموں کو رحم دے دیجئے، ان سخت دلوں کو، بد بخت دلوں کو جلد رحم دے دیجئے، ان کے دلوں کو نرمی عطا فرمائیے، اور ان کے جانوروں کی طرح جو سخت دل ہیں اللہ! ان کو انسانیت کے دل سے بدل دیجئے اور اسی طریقہ سے جتنے چوری ڈاکے ہیں اللہ! ان کو حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مالک! حرام، خبیث دعوتوں سے توبہ نصیب فرمائیے۔ جملہ کائنات کو، عالم اسلام کو عزت، شوکت، عافیت، امانت اور اسلام کی محبت نصیب فرما، اور اس ملک کی غریبی دور کر دے۔ اللہ! اس ملک کو مضبوط فرمادے دولت کے لحاظ سے بھی، اور دین کے لحاظ سے بھی، اسلام کے لحاظ سے بھی، اور سارے ممالک اسلامیہ کو اللہ! محفوظ اور مضبوط فرما

دے، دولت کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی اور اسلام و دین کے لحاظ سے بھی۔

آمین (بیان ڈھلکا گھر مسجد۔ ڈھاکہ CD4)

ہر پریشانی سے نجات، ہر مشکل سے آسانی اور روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفاءِ کامل نصیب فرما

یا اللہ! ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں سب کو دور فرمادیں۔ یا اللہ تعالیٰ! ہم میں سے جس کو جو مشکل پیش ہو، جس کے گھر میں کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی، اسی طرح بعض لوگ گناہ سے توبہ کر کے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، مگر نفس و شیطان کی غلامی سے اپنی جان کو چھڑانہیں پارہے ہیں۔

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ! ہم میں جس کو جو جسمانی تکلیفیں ہیں، اپنی بیماری یا اپنے بچوں کی بیماری یا اپنے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو سب کو شفاء عطا فرما، جسمانی شفاء بھی دے، روحانی شفاء بھی دے۔ (وعظ نمبر 11 تجلیات جذب، حصہ اول)

اے اللہ! ہمارے جسموں کو بھی سلامت رکھئے، گردوں کی پتھری پڑنے سے، گردوں کے بیکار ہو جانے سے، پتے میں پتھری پڑنے سے، کینسر ہونے سے، بلڈ کینسر ہونے سے یا اللہ! پیٹ پھڑوانے سے اور آپریشن کرانے سے، جملہ خطرناک بیماریوں سے ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی حفاظت نصیب فرما، اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ساتھ سلامتی ایمان بھی نصیب فرما۔ اے اللہ! ہر وقت خوشی دکھا اور غم کی موت سے بچا، ہر وقت ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون نصیب فرما۔ (وعظ نمبر 61 مقام اخلاص و محبت)

ہمارے قلب کو قلبِ سلیم بنا دیجئے، سلامتی دے دیجئے اور قلبِ سقیم کو شفاء عطا کر دیجئے (قلبِ بیمار وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے ہر وقت اس کی دُھن رہتی ہے یہ قلب کی بیماری کی علامت ہے)۔ (حصول سایہ عرش، CD4)

پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا کے انتقال پر پُر سوز دعا کے چند کلمات

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ اور ہماری پیرانی صاحبہ جن کی للہیت و خدا ترسی و دین داری کا خود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے بار بار اعتراف فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی زندگی میں کئی بار فرمایا کہ: یہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہیں۔ ان کا دنیا سے رحلت فرمانا اس قدر الم ناک تھا جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر قربان جائیے حضرت والا کے صبرِ عظیم پر! جس کا تھوڑا سا حصہ حضرت والا کی اس دعا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اس دعا میں عبرت بھی ہے اور سبق بھی۔

اللہ! ہم سب کو صبرِ جمیل عطا فرمادے، خاص کر ہمارے خاندان والوں کے لیے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے اس کو غم زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہی وقت بہتر تھا اس وقت کی رحلت آپ کی منشا سے ہوئی ہے، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کیوں کہ آپ کی تجویز، آپ کی مرضی سے بڑھ کر کائنات دو جہاں میں کوئی چیز نہیں، لہذا آپ نے جس وقت ہمارے سے وہ نعمت لی اس سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا بس! آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو صبرِ جمیل عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت بے حساب فرمائیے، کوئی حساب لئے بغیر اپنی رحمت کے آغوش میں قبول فرمائیے، اور کروڑ کروڑ چین عطا فرمائیے، اور ان کی برکت سے ہم سب کو صبرِ جمیل عطا فرمائیے، اور ہمارے تمام جائز کام اپنی رحمت سے بنا دیجئے۔ آمین (مبرک انہوم، 1982-11-03 CD3)

اپنے شیخ کے لیے دعائیں

اہل اللہ وہ بابرکت ہستیاں اور وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جن کی صحبت کی برکت سے کوئی شقی و بد بخت نہیں رہ سکتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی لئے اکابرین کے ہاں شروع سے اپنے شیخ کے وجود کا سایہ تادیر رہنے کے لئے اور ان کی عمر و صحت و دینی خدمات میں اضافہ کے لئے دعا مانگنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت والا دامت برکاتہم کے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب (جب کہ وہ حیات تھے، افسوس! اب حضرت ہر دوئی اس دارِ فانی سے کوچ فرما گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً۔ آمین) کے لئے حضرت والا

رحمتہ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے دعا مانگی تھی۔ جس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے شیخ، تبریز دوراں، غزالی زماں، رومی ثانی، مجددِ غصّ بصر، شیخ العرب والجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور حضرت والا کی تعلیمات و فیوض کو سارے عالم میں نشر فرمادے اور ہمیں بھی حضرت والا کی تعلیمات کی خوب سے خوب قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اے اللہ! میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کو صحت نصیب فرما دے، قوت و توانائی نصیب فرما دے، دیر تک حضرت کا سایہ اللہ! ہمارے سروں پر دینی خدمات اور اپنی رضا کے ساتھ قائم فرما اور ہم سب کو فیض سے مالا مال فرما دے۔ (صحبت شیخ کی

اہمیت و عظمت نمبر 92)

ایمانی اجتماع کو قبول فرما!

کتاب و سنت میں مسلمانوں کا محض اللہ و رسول کے لئے دین کی خاطر جمع ہونے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ایسی مجالس میں ملائکہ کا نزول، رحمتوں کا برسنا اور سیکھنے کا اثر نا بھی احادیث میں وارد ہے۔ لہذا ایسے اجتماع و مجالس میں دعا کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ چنانچہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی اسی طرح کے ایک اجتماع میں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی اجتماعی درمندانہ دعا جو کہ دینی و اصلاحی اجتماع میں مانگنے والوں کے لئے نہایت مفید و کارگر ہے:

اس اجتماع میں زبان کا سوال نہیں، کتنے سندھ کے ہیں! کتنے پنجاب کے ہیں! یا اللہ! نہ یہاں کوئی وطنیت ہے، نہ لسانیت ہے، صرف آپ کی محبت کے نام پر یہ اجتماع ہے۔ اپنے نام کے صدقے، اپنی عزت کے صدقے، اپنی عظمت کے صدقے اس اجتماع کو قبول فرما۔ اس اجتماع کو بعینہ جنت میں اکٹھا کر دے۔ (وعظ نمبر 11 تجلیات جذب، حصہ دوم)

آپ ہم سب کی حفاظت کا ارادہ فرمائیے۔ ہم سب کو سو فیصد اپنا بنانے کا فیصلہ فرمائیے۔ اور آپ کے نام سے بڑھ کر اجتماع کس بات پر ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے فیصلہ فرمادیجئے۔ (وعظ نمبر 67 زندگی کے قیمتی لحاظ)

ہم سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب فرمائیں اور غیر مقبول اعمال سے حفاظت کو مقدر فرمائیں۔ (وعظ نمبر 81 طریق الی اللہ)

اس اجتماع کو جو خالص خدا کے نام پر ہے کوئی بزنس، کوئی زبانی، علاقائی، وطنیت پر نہیں ہے اللہ! اس اجتماع کو قبول فرما۔ (محمد ﷺ کی شان، CD6)

اللہ کے نام پر یہ اجتماع ہے، نہ زبان پر ہے، نہ وطن پر ہے، نہ تجارت پر ہے الحمد للہ! کسی چیز پر نہیں، سوائے اللہ کے نام پر۔ مختلف زبانوں کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف قبائل کے، مختلف شہروں کے، مختلف وطن کے اے خدا! تو گواہ ہے اس بات پر، ہمارے دلوں کی نیت سے تو باخبر ہے کہ ہم صرف تیرے نام پر جمع ہیں۔ (CD5,02)

میرے دوستوں کو قبول فرمائیے، اور دوستوں کے گھر والوں کو بھی قبول فرمائیے، اللہ والی حیات ہم سب کو نصیب فرمائیے، اللہ! تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائیے، ہمارے دست و بازو سے آپ ہم کو چھین لیجئے کیوں کہ ہمارے ہاتھ خود ہمارے پاؤں کو کھا رہے ہیں۔

دست ماچوں پائے مارا می خورد

جلال الدین رومی فرماتے ہیں: جب ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو خود کھا رہا ہو تو بجز آپ کی امن اور پناہ کے ہم میں سے کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہم درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے آپ ہمیں خرید لیں، اپنی رحمت سے دستِ کرم بڑھائیے اور ہماری جانوں کو خریدیے، ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذاتِ پاک سے اس طرح چپکا لیجئے کہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی نفسانی خواہش ہمیں آپ سے جدا نہ کر سکے۔ اے اللہ! کشاں کشاں ہم سب کو اولیائے صدیقین کے مقام تک پہنچا دیجئے اور ہماری ماں بہنوں کو بھی جو یہاں آئیں۔ (توبہ کے فضائل، CD5)

اللہ! ہماری دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی بنا دے، میدانِ محشر میں بغیر حساب مغفرت فرما دے اور جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما جس طرح اس وقت ہم خالص آپ کے نام پر جمع ہیں۔ اے خدا! آپ گواہ ہیں کہ میں نے کوئی نذرانہ نہیں ان سے طے کیا، ہم نے بیماری اور ضعف کی حالت میں حاضری دی اور آپ کے لیے یہ بیان ہوا، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اور اس درسِ قرآن کی برکت سے ان گھروالوں پر بھی رحمت نازل فرمائیے، جن کے گھر میں آپ کے کلام کی تفسیر، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دیجئے جس طرح آپ کے نام پر یہاں ہم سب جمع ہیں۔ آمین (سورۃ الملک کی آیات کی تشریح، CD5)

دین کے خادمین کے حق میں دعائیں

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہے کہ: دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ لہذا دین کے تمام خدام کو ایک دوسرے کی معاونت کرنی چاہیے۔ اور کم از کم دعا تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور ہر شعبہ دین ایک دوسرے کو رفیق سمجھے نہ کہ فریق۔ دینی خدام کے لئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا انہی تعلیمات کا ایک جزو ہے:

اے اللہ! جہاں جہاں دینی درسگاہیں ہیں ان کو قبول فرما۔ علماء دین کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما دے۔ جتنے دینی خدام ہیں ان سب کو اور جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کو، ہم کو اور ہمارے گھروالوں کو اور ہمارے احباب کو اے اللہ! سلامتی اور سلامتتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما۔ سلامتی اور سلامتتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ (دعائے نمبر 12 تزکیہ نفس)

جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں یا دارالعلوم کھولنے والے ہیں اے اللہ! عالمِ غیب

سے ہم سب خدام پر اپنے خزانے برسا دے۔ (دعائے نمبر 27 عظمتِ حفاظِ کرام)

دینی خدمات کا بارگاہِ الہیہ میں شرفِ قبولیت کے لئے

ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیرِ کعبہ کے وقت انتہائی عاجزی و انکساری سے دعا کی تھی کہ: "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ" (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۲۷) ترجمہ: "اے ہمارے رب! ہماری طرف سے (تعمیرِ کعبہ کے اس عمل کو) قبول فرما لیجئے، بے شک آپ کی ذات سننے والی، جاننے والی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی دینی خدمات کو قبولیتِ عامتہ و تائمہ اور شرفِ قبولیت حاصل ہونے کے لئے بارگاہِ الہیہ میں پیش کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض اور تعلیمات کو عالم بھر میں قبولیتِ عامتہ و تائمہ کا ملنا حضرت والا کی اسی طرح شب و روز اور آہ و فغاں والی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ذیل کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے:

اے اللہ تعالیٰ! میری آہ و فغاں کو قبول فرمائے، اور اس کو سارے عالم میں نشر کر دے، اختر کی یہ فریاد ہے کہ اے خدا! آپ کے کرم نے مجھے اپنے کو اور آپ کے بندوں کو غیروں سے چھڑا کر آپ سے جوڑنے کی مہم چلانے کی جو توفیق بخشی ہے اس کا سلیقہ بھی عطا فرمادے، اور اس کو قبول بھی فرمائیے، اور اختر کی اس آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر فرما دیجئے۔ (وعظ نمبر 18 تقویٰ کے انعامات)

سارے عالم میں اپنے درد کی اور اپنی محبت کی خوشبو کے لیے ہماری زبانوں کو قبول فرما لیجئے۔ سارے عالم میں ہم سب کو پھرائیے، سارے عالم میں اپنی محبت کے درد کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے لیے صحت و قوت بھی عطا فرمائیے، ہم سب کی جانِ نحیف میں کروڑوں جانیں عطا فرمائیے، پھر یہ کروڑوں جانیں اپنی راہ میں قبول فرمائیے۔ (وعظ نمبر 61 مقامِ اخلاص و محبت)

متعلقین کے لیے خصوصی دعائیں

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ: کامل شیخ وہ نہیں ہے جو صرف خود اکیلا قربِ الہی کی منزلیں طے کر رہا ہو، اور اس کے مریدین و متعلقین پیچھے رہ جائیں۔ بلکہ شیخ کامل وہ ہے جو اپنے ساتھ اپنے مریدین و متعلقین کو بھی اپنی تعلیمات، فیوض اور دعاؤں سے قربِ الہی کی منزلیں طے کر رہا ہو، چنانچہ حضرت والا

رحمتہ اللہ علیہ کی کاملیت کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، فیوض اور دعاؤں ہی کا اثر ہے کہ جو حضرت والا کی خانقاہ میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو وہ شریعت کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے۔ (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْمِنَّةُ)

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے متعلقین کے حق میں کی گئی درد بھری دعاؤں میں سے ایک دعا ملاحظہ فرمائیں:

یا اللہ! ہماری جانِ ناتواں پر اپنی رحمت سے ایک کروڑ جانِ توانا عطا فرما، اے اللہ! سارے عالم میں آپ کی محبت کے نشتر کرنے اور اپنے کریم ہونے کے صدقہ میں اختر کو بھی قبول فرما، میرے سارے دوستوں کو بھی قبول فرما، جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں، میری کشتی میں ہیں، ان کو میری کشتی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پار کرادے، یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! میرے شاگردوں کو ایسا درد بھرا دل عطا فرما دے کہ سارے عالم میں آپ کی محبت کے درد کو پھیلائیں۔

دُنُوں عَالَم کی کیا ہے حقیقت
جتنے عَالَم ہوں تجھ پر لٹائیں

دُنُوں عَالَم کی کیا حقیقت ہے! لاکھوں عالم آپ پر فدا کر دیئے جائیں تو بھی آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اے خدا! تیری محبت، تیری بڑائی، تیری عظمت کی تعریف سرورِ عالم ﷺ نے خونِ نبوت سے کی ہے، طائف کے بازار میں، اور اُحُد کے دامن میں تیرے واسطے حضور ﷺ کا خونِ مبارک بہا ہے، ہم آپ کی محبت کا حق کیا ادا کریں گے؟ صرف آپ کی توفیق کا سہارا ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور ہماری آخرت بھی بنا دے، جس کو جس گناہ کی عادت ہے اے اللہ! وہ گناہ اسے چھوڑنے کی توفیق دے دے، جب تک گناہ کرتا رہے گا ولی اللہ نہیں بنے گا۔ یا اللہ! تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے جذب سے ہم سب کو اپنا بنا، اور اے اللہ! جہاں جہاں آپ کی محبت کی بات

سنائی ہے سب کو، جان اختر کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو اولیاء اللہ بنا دے۔ (وعظ نمبر 182 اولیاء اللہ کی پہچان)

اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے حق میں تین دعائیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو متعدد جگہ اپنے راستے میں جان لگانے کے ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کے خزانے سے انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کے حق میں تین دعائیں کی ہیں۔ لہذا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو یہ تین عمدہ دعائیں ہمیں بھی دینی چاہئے:

(1) اللہ تعالیٰ جو مال انہوں نے دیا اس پر اجر دے۔ (2) اللہ ان کے مال میں برکت دے۔ (3) اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ آمین (تفہیم القرآن، ڈھاکہ مسجد 87-05-11-87 CD4)

دین سیکھنے میں ادب نصیب فرما!

دین اسلام میں بڑوں کے ادب کے بارے میں بہت تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ چنانچہ عربی میں مقولہ ہے کہ: **اَللّٰهُ يَنْزِلُ كَلِمَةً اَدَبٌ** (دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے) اور اردو میں محاورہ مشہور ہے ”با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب“ لہذا جس کو جو کچھ بھی حاصل ہو وہ ادب ہی کی وجہ سے ملا، اسی ادب کے حصول کے سلسلے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا ہے:

اے خدا! ہمیں اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، جن سے ہم دین سیکھتے ہیں ان کا ہمیں ادب نصیب فرما

اے خدا! جو سیم توفیقِ ادب

اے خدا! ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرما

بے ادب محروم ماندا، فضلِ رب

اے خدا! ہم کو بے ادبی کی وجہ سے اپنے فضل سے محروم نہ فرما

یعنی ہم کو بے ادبی سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما۔ اے خدا! ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین (وعظ نمبر 09 بدگمانی اور اس کا علاج)

عمل کی توفیق عطا فرما!

اللہ تعالیٰ! اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ! ہدایت کے راستے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمارے نفوس کے شرور سے تحفظ عطا فرما۔ (اتباع سنت، CD4)

جو اچھی باتیں ہیں اے اللہ! ہم کو اچھی دکھا دیجئے اور ان پر عمل کی توفیق بھی دے دے، اور جو بری باتیں ہیں، ان کی برائی ہم کو دکھا دے، اور ان سے بچنے کی توفیق بھی دے دے۔ آمین (اللہ کی محبت کا نقطہ آغاز، ٹیڈ و جام CD4)

تمام مخلوق پر رحم فرما!

۲۳ سالہ دورِ نبوت کی دُعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیے، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، سارے مسلمانانِ عالم کے حق میں بلکہ کافروں کے حق میں بھی قبول فرمائیے کہ ان کو ایمان سے نوازش فرمائیے۔ چیونٹیوں پر بھی رحم فرمائیے ان کے بلوں میں، مچھلیوں پر رحم فرمائیے دریاؤں میں۔ لہذا اپنے رحم کی بارش کر دیجئے۔ (وعظ نمبر 64 نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے)

رمضان المبارک میں محبت الہیہ کی طلب

جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض جگہیں مقدس و محبوب ہیں، اسی طرح مختلف اوقات اور مہینے بھی محترم ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور قربت جس کو حاصل ہے وہ ہے ماہِ رمضان المبارک۔ چنانچہ رمضان المبارک میں رحمت الہیہ کا نزول، جنت کے دروازوں کا کھلنا اور جہنمیوں کی بکثرت مغفرت وغیرہ احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے اس مقدس و مبارک مہینہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہئے؟ اور سب سے

زیادہ اہمیت کس چیز کو دینی چاہئے؟ وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا سے ہمیں مل سکتی ہے!
اے اللہ! ہمارے دلوں میں اپنے دردِ محبت کا موتی داخل کر دے، ہمارے سید
خالی ہیں اور منہ پھیلائے ہوئے ہیں:

دست بکشا جانبِ زنبیلِ ما

ہمارے خالی سید کی طرف اپنے کرم اور اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا دیجئے، رمضان کا مہینہ
ہے، روزہ کی حالت میں بھوکے، پیاسے ہیں، مبارک زمانہ ہے، مبارک مکان (جگہ) ہے،
مسجد میں صالحین، محدثین، طلباء کرام جمع ہیں، اے خدا! ان کی برکتوں سے ہمارے دل و
جان کے سید میں اپنی محبت کے درد کا موتی داخل فرما دیجئے، وہ موتی جو اولیاءِ صدیقین کے
سینوں میں آپ داخل کرتے ہیں، وہ دردِ محبت ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے، اور ہمارے
دل و جان کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب اور قالب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ
کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور تمام دوستوں کو جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں، سارے
عالم کے دوستوں کو اور اے اللہ! جنہوں نے دوستی نہیں کی ان کو بھی، ہر کلمہ گو کو اپنی رحمت سے
صاحبِ نسبت بنا دیجئے۔ (وعظ نمبر 83 نسبت مع اللہ کے آثار)

اصلاحِ نفس و تعلق مع اللہ کے لئے دعائیں

یا اللہ! عجب و کبر سے، ریا سے اور جملہ رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے اور اپنی
مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ (وعظ نمبر 05 علاج کبر)

ہم سب کو سو فیصد اپنی فرماں برداری کی حیات نصیب فرما دے، ہم سب کی زندگی کی
ہر سانس کو یا اللہ! اپنی رضا و خوشنودی پر فدا کرنے کی توفیق دے، اور ایک سانس بھی ہماری
آپ کی ناراضی میں نہ گزرنے پائے، اور ہماری ہر سانس اپنی فرماں برداری میں اپنی رحمت
سے قبول فرما لیجئے۔ (وعظ نمبر 07 خوشگوار ازدواجی زندگی)

اللہ! ہم گناہ گاروں کو، ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذاتِ پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے جیسے ماں چھوٹے بچے کو چپکا لیتی ہے، اور اس پر دوپٹہ بھی ڈال دیتی ہے، اور ٹھوڑی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے اور محبت سے اس کو دبا لیتی ہے۔

اے خدا! ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذاتِ پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے کہ ہماری روح آپ سے ایسی چپک جائے کہ حُسن کی دنیا، مال و دولت کی دنیا، تکبر و غرور کی دنیا، پوری دنیا ہمیں آپ سے ایک اعشاریہ نہ کھینچ سکے، ایک بال برابر کوئی ہمیں آپ سے الگ کرنے سکے۔ آپ کے جذب کے بعد پھر کسی کی طاقت نہیں جو ہمیں آپ سے کھینچ سکے۔ ماں سے بچے چھینے جاسکتے ہیں کیوں کہ ماں کمزور پڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی تگلڑا غنڈا آجائے تو ماں سے اس کا بچہ چھین سکتا ہے۔ چاہے کتنا ہی جذب کیے ہو! کتنا ہی دبائے ہوئے ہو! کوئی زیادہ طاقت والا غنڈا ماں کو دو طمانچہ مار کر بچہ چھین سکتا ہے، لیکن یا اللہ! آپ جس کو اپنی رحمت کی گود میں چھپالیں، اپنا تحفظ عطا فرمادیں، اپنی حفاظت مقدر فرمادیں، تو اس کو کوئی شیطان، کوئی نفس، کوئی گمراہ کن ایجنسی کسی قسم کے نمکین اور حسین، نہ حسین عورتیں، نہ حسین

لڑکے اس کو آپ سے ایک اعشاریہ الگ نہیں کر سکتے۔ (اللہ کا جذب کرنا، بیان نمبر 07-CD2)

اے اللہ! ہم سب کو اس طرح اپنا بنا لے کہ ہم یہ کہہ سکیں:

دو دنوں جانب سے اشارے ہو چکے

ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے

ہمیں ایسا جذب فرمائیے کہ ہم اس شعر کو پڑھ کر مست رہیں۔ (وعظ نمبر 11 تجلیات جذب، حصہ دوم)

اے اللہ! ہمارے دلوں کا مزاج بدل دے۔ فاسقانہ، نافرمان گناہ کے مزاج کو خبیث عادتوں کو یا اللہ! طیب مزاج سے بدل دے، اور جو لوگ چھپ چھپ کر اپنے نالائق اور غلط ماحول میں جا کر اپنی عادت کو صحیح نہیں ہونے دے رہے ہیں اے خدا! اُن کو اپنی جان

پر، اور ہم سب کو اپنی جانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں۔ اللہ والوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم جب ان کے در پر آگئے، تو ساری برائیوں سے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ معصیت کے مراکز میں دوبارہ جا کر اپنی روح کی ناک کو فاسد کرنے سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ! اختر کو اور ہم سب کو اور میرے دوستوں کو اور ہم سب کے گھر والوں کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کی ہر سانس اے خدا! ہم سب آپ پر فدا کر دیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیں۔ کبھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ (وعظ نمبر 15 مقصد حیات)

اے خدا! ہم سب آپ ہی کے ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں۔ اس لیے سر سے پیر تک ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے ہر ذرہ جسم کو، ہماری روح اور قلب کو سو فیصد اپنا بنا لیجئے۔ اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ نفس و شیطان سے جنگ میں ہم بار بار ہار چکے ہیں، شکست خوردہ ہیں، عاجز ہیں، در ماندہ ہیں۔ اس لیے اپنی صفتِ جذب کا ظہور فرمائیے، کیوں کہ اس خزانے کی خبر آپ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ ابا اپنا جو خزانہ بچوں کو نہیں دینا چاہتا اس کو چھپا کر رکھتا ہے۔ آپ نے اس خزانے کو قرآن پاک میں نازل فرما کر سارے عالم کو بتا دیا کہ: میرے اندر شانِ جذب بھی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس صفت کا ہم سب پر ظہور فرما دیجئے۔ (وعظ نمبر 61 مقام اخلاص و محبت)

یا اللہ! ہم سب کے قلوب میں اپنے درِ دل کا وہ مقام عطا فرما دے جو آپ اولیاءِ صدیقین کو عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ! ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو بُری بُری عادتیں آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، جو بھی اخلاق ہمارے ہوں، اعمال ہوں، افعال ہوں، خیالات ہوں، جذبات ہوں یا اللہ! سب کو اپنی مرضی کے موافق بنا لے، مِنْ وَعَنْ ہمیں اپنا

بنالے۔ آمین (07-07-1997, oie)

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ اٰخٍ كِي تَجَلّٰبِيْ هَم پَر بھي نازل فرما

اے اللہ! ہم سب پر، اور میرے احباب حاضرین اور ان کے گھر والوں پر، اور میرے احباب غائبین اور ان کے گھر والوں پر ”فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ“ (سورۃ المائدہ، آیت: 54) کی تجلّی نازل فرمادے اپنے عاشقوں کی قوم میں ہم سب کو داخل کر لے۔ آپ کے کلام کی اس آیت مبارکہ میں عاشقوں کی جو قوم پیدا کرنے کی بشارت ہے، ہم سب کو اس میں شامل فرمادے، اور یہ تجلّی ہمارے دلوں پر نازل فرمادے ہم سب کو جذب کر کے اپنا بنالے (وعظ نمبر 41 اللہ کے باوقابندے)

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عریانی
کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود کو جیب و گریباں کو

اولیائے صدیقین کا مقام و مرتبہ نصیب کر!

اہل اللہ سے عقیدت و محبت، اور ان کی صحبت و خدمت اور ان کی تعلیمات کی اتباع یہ تمام امور تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی بنیاد ہیں۔ جس سے آدمی بالآخر اولیائے صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اہل اللہ کی صحبت و خدمت اور ان کی جوتیاں اٹھانے میں لگادی اور ہمارا گمان اقرب الی البقین ہے کہ حضرت والا اولیاء صدیقین کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ سے اہل اللہ کی صحبت و خدمت اور مقام صدیقیت کو مانگنا اس میں ہمارے لئے بہت بڑا درس و سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں:

دعا کر لیجئے! اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مبارک مقام کی برکت سے، اور ہمارے بزرگوں کی اولاد جو یہاں ہے یا اللہ! میں بزرگوں کے خون کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی نسبت سے مانگتا ہوں کہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کی آگ سے بھر دے۔ یا اللہ! ہم سب کو صاحبِ نسبت بنا دے۔ یا اللہ! بایزید بسطامی، جنید بغدادی، بابا فرید الدین عطار اور حضرت مولانا

تھانوی و گنگوہی و مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہم جتنے بھی ہمارے سلف میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں یا اللہ! ان اولیاءِ صدیقین کے سینوں کو آپ نے ایمان و محبت و تقویٰ کا جو مقام عطا فرمایا تھا اور دنیائے بے ثبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہمارے قلوب کو بھی عطا کر دے۔ (وعظ نمبر 03 تعلق مع اللہ)

اللہ! ہم سب کو صاحبِ نسبت کر دیجئے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ! کسی کو محروم نہ فرمائیے، اختر مسافر ہے، آپ مسافر کی دُعا کو قبول فرماتے ہیں، ہم سب کو صاحبِ نسبت کر دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو اللہ والا بنا دیجئے، جو لوگ یہاں نہیں ہیں، ان کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ! ہم سب کے خاندان والوں کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، بچیوں کو اللہ والی بنا دیجئے۔ (وعظ نمبر 08 حقوق النساء)

اولیاءِ صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے۔ اور نبوت اب ختم ہو چکی ہے، آپ ہمیں اپنے اولیاء کے آخری اور منہتہائے مقام تک اپنی رحمت سے پہنچا دیجئے۔ (وعظ نمبر 10 منازل سلوک)

یا اللہ! آپ اپنے فضل سے ہمارے بزرگوں کی کرامتوں سے، ان کی دعاؤں سے ان سب گندگیوں سے ہم کو تزکیہ نصیب فرما، ان کے ساتھ حُسنِ ظن اور عقیدت نصیب فرما، اے اللہ! اپنے مقبول بندوں کی جو تیاں اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں کی محبت نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، یا اللہ! ہماری تمام برائیاں، ظاہر کی، باطن کی جتنی بھی گندگیاں ہیں، سب سے ہمیں تزکیہ اور اصلاحِ نفس نصیب فرما دے۔ (مقاصدِ بختِ نبوت CD5)

اپنی محبت سب سے بڑھ کر دے!

اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں محبت کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے ہر حکم، ہر اشارہ پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی مادہ کا صحیح استعمال صرف حق تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اسی لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعائیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اعمال صالحہ کی محبت اور اہل اللہ کی محبت مانگی ہے۔ اور ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو نہایت درد بھری تشریح کے ساتھ اور اپنی آہ و فغاں والے کلمات کے ساتھ اپنی دعائیں مانگا ہے۔ اور یہ دعا محبتِ الہیہ کے طالبین کے لئے ایک بہترین توشہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ حُبَّکَ اے اللہ! مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ اور اے خدا! جو لوگ تجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت بھی نصیب فرما۔ اپنے عاشقوں کی، اور اللہ والوں کی محبت بھی نصیب فرما دیجئے، اور ان اعمال کی محبت بھی نصیب فرما دیجئے جو آپ کی محبت کا ذریعہ ہیں۔ (کیا ملتا ہے اللہ والوں سے؟ CD4)

یا اللہ! ہمارے دلوں کو قبول فرما لیجئے، اپنا بنا لے، اے اللہ! اس دل کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی کی گردن میں اپنا پٹہ ڈال دے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ستاتا نہیں، اے خدا! اس دل کے اندر اپنی محبت کا پٹہ ڈال دے، اپنا بنا لے۔ (آیت وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَاکِ

تشریح CD4)

اے اللہ! جتنی محبت سے ہم دنیاوی غذاؤں کو دیکھتے ہیں فلائنگ فش، سموسہ، پاپرٹ، ٹھنڈا پانی، مرنڈا وغیرہ دنیا کی ساری نعمتوں سے آپ ہمیں زیادہ پیارے معلوم ہوں، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ رگ رگ میں جان آجائے، جب ہم آپ کا نام لیں تو معلوم ہو کہ ہماری حیات پر بے شمار حیات برس رہی ہے، ہماری جان پر بے شمار جان برس رہی ہے۔ (01,24-06-1997)

یا اللہ! آپ نے مرتد قوموں کے مقابلہ میں اہل محبت کی جماعت کو ذکر فرمایا، ہم سب لوگوں کو اسی برادری میں شامل فرما دیجئے، اے خدا! اپنے عاشقوں کی اور اپنے محبت

کرنے والوں کی برادری میں ہم سب کو شامل کیجئے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اس کے لیے جو قابلیتیں چاہئے وہ آپ عطا کر دیجئے، ہمارے تو پیالے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس قابل نہیں ہیں، اس میں پتھر، کنکر نہ جانے کیا کیا ہے، اللہ! ہمارا تھلیہ بھی فرمائیے، تحلیلہ بھی فرمائیے۔ ہمیں گندگی سے بھی پاک کیجئے، اور اپنے قرب کے موتی اس میں عطا فرمائیے، اور اپنی رحمت سے اپنے محبوب بندوں کی تینوں علامتیں یعنی ”ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت سے ملنے کی توفیق اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق اور دشمنانِ دین پر سخت ہونے کی توفیق اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں مجاہدہ کی توفیق عطا فرمائیے، اور مخلوق کی ملامت کا خوف ہمارے قلب سے نکال دیجئے۔“ آپ واسع ہیں، علیم ہیں، اور آپ کو دینے سے اپنے خزانہ کے ختم ہونے کا خوف نہیں، علیم ہیں آپ، ہمارے اخلاص و طلب میں کمی ہے تو آپ اپنی رحمت سے ہمیں اخلاص و طلب بھی عطا فرما دیجئے، پیاس بھی عطا فرما دیجئے، دونوں عطا فرمائیے، پیاس بھی دیجئے پانی بھی پلائیے۔ (CD4:02-01-87)

اللہ! اپنی رحمت سے ہم سب کو سمندر کے کنارے، اپنی محبت کے مشغلے اور ذکر سے معزول نہ فرمائیے یعنی دنیا میں ایسا نہ پھنسائیے کہ ہم آپ کا نام لینے کی فرصت ہی نہ پائیں۔

۔ از کرم از عشق معزولم کن

اپنے کرم سے اپنی محبت سے ہم کو معزول نہ کیجئے۔ معزول معنی ریاضاً نہ کیجئے اور

۔ جُو بَدِ کَرِ خَوِیْشِ مَشْغُوْلِ مَکْن

اور اپنی یاد کے بعد ہمیں اور کسی کام میں مشغول ہی نہ ہونے دیجئے۔ آئندہ گناہ مقدر ہوں تو نیکیاں لکھ دیجئے۔ (CD4)

اللہ تعالیٰ! اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم کو لائق بنا دے، اور ہمارے نفس کا جو مزاج فاسقانہ بن چکا ہے اس کو عاشقانہ بنا دے، اور ہمارے قلب کو غیر اللہ سے چھڑا لے۔

نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ! ہمیں سو فیصد اپنی فرماں برداری کی زندگی عطا فرما، اور ہم لوگوں کے دل میں جتنے نیک ارادے ہیں سب ارادوں میں بامراد فرمادے۔

(02,28-06-1997)

تیری رضا کے محتاج ہیں سب اے میرے اللہ!

اے اللہ! ہم اپنی نالائقیوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، ہم اپنی نالائقیوں سے نفس کے کمینہ پن سے، غیر شریفانہ حرکات سے، اپنی بشری کمزوریوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے۔ لیکن اگر ہم آپ کو خوش نہیں کر سکے تو آپ ہماری خوشیوں سے بے نیاز ہیں۔ آپ اپنے کرم سے ہمیں خوش کر دیجئے تو آپ کا احسان ہوگا آپ ہماری طرف سے خوشیوں سے بے نیاز ہیں، ہم آپ کی طرف سے عطاء خوشی کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی نالائقیوں سے آپ کو خوش نہیں کر سکے، لیکن اگر آپ ہمیں خوش نہ کریں گے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے جو آپ کے سوا ہمارا ہو، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اس لیے آپ ہمیں ہمارے سب اچھے اچھے مقاصد میں کامیاب فرما کر ہم کو خوش کر دیجئے کہ آپ اللہ ہیں، بہت بڑے مولیٰ ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ آپ ہماری طرف سے خوشیوں کے انتظار میں ہیں، آپ کو ہماری خوشی کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری ہی شرافت ہوتی ہم ایک شریف، لائق بندے ہوتے، آپ کو خوش کرتے اپنے لائق اعمال سے، مگر ہم سے تو نالائقیوں ہو گئیں، جس کی ہم معافی چاہتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے آپ ہماری خوشیوں کی کوئی تکمیل نہ فرمائیں۔

آمین (غیبت کی حقیقت، 1992، CD3)

اپنا خوف نصیب فرما!

دور حاضر میں ہر طرف گناہ کے اسباب اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ مگر جس کو موت اور آخرت کے مراحل کا دھیان رہے، اور خوفِ خدا اُس کے دل میں ہو تو ہر طرح کے گناہ سے بچنا اُس کے لئے آسان نہیں، بلکہ مزید آسان ہوتا ہے۔ درج ذیل کی دعا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے:

اے اللہ! ہم سب کو اپنا خوف دے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اے اللہ! اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور مجھ کو بھی اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ! موت کی یاد دل میں ڈال دے۔ قبر کی زندگی کی یاد ہمارے دل میں ڈال دے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور دوزخ کی آگ ہے، اس کا خوف عطا فرما۔ اے اللہ! ان سب چیزوں کا ہمیں یقین عطا فرما۔ آمین (وعظ نمبر 63 حقوق الرجال)

ناراضگی اور غضب سے بچا!

اے خالق حیات! اے ہماری زندگی کے پیدا کرنے والے، اور ہماری زندگی کو باقی رکھنے والے، اور ہماری زندگی کو پالنے والے! اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے اندر ایسا ایمان اور یقین بھر دیجئے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ کی رضا اور خوشی کے اعمال پر فدا ہوا، اور آپ کو ایک سانس بھی ہم ناراض نہ کریں یعنی آپ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی مبتلا نہ ہوں۔ (وعظ نمبر 19 حیات تقویٰ)

اے اللہ! ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما، ایسی لذت آپ کے نام پاک میں مل جائے کہ سلطنت سے بھی ہم فروخت نہ ہو سکیں، سورج اور چاند بھی ہمیں نہ خرید سکیں، ساری دنیا کی لیلائیں ہمیں خرید نہ سکیں۔ اور ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ (وعظ نمبر 25 نور ہدایت اور اس کی علامات، حصہ اول)

اے اللہ! ہم سب کو ایمان اور یقین، ایسی نسبت، ایسی محبت نصیب فرما کہ ہم سب کی زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور آپ کے غضب اور قہر کے اعمال سے، حرام خوشیوں کی درآمدات پر، امپورٹنگ پر ہمیں پوری پابندی عائد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ (وعظ نمبر 26 نور ہدایت اور اس کی علامات، حصہ دوم)

اللہ تعالیٰ! ہمیں اپنے دوستوں کا اعلیٰ مقام نسبت اولیاءِ صدیقین عطا فرما دے۔ وہ

کیا ہے کہ ہر سانس ہم آپ پر فدا کریں، اور آپ کو خوش رکھیں، ایک لمحہ آپ کو ناراض کر کے اس کمینے پن، بے غیرتی اور خباثتِ طبع سے ہم اپنے دل کو حرام خوشیوں سے خوش نہ ہونے دیں۔ (وعظ 34 صبر اور مقام صدیقین)

اے اللہ! جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیں، اور جن باتوں سے، جن اعمال و افعال سے آپ ناراض ہوتے ہیں تو اے خدا! آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ہم اپنے دل کو خوش کرنے سے انتہائی درِ ددل سے پناہ مانگتے ہیں، کیوں کہ ہماری وہ خوشی، مبارک خوشی نہیں ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ ایسی منحوس خوشی سے ہم سب کو توبہ نصیب فرمادے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر کے اپنا دل خوش کر لے وہ بیٹا نالائق کہلاتا ہے، اے خدا! ہم نالائق بندے ہیں کہ آپ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کرتے ہیں۔ ہمیں اس نالائق عمل سے توبہ نصیب فرمادے۔ (وعظ نمبر 61 مقام اخلاص و محبت)

اے اللہ! ہمیں اتنی محبت دے دے کہ ہماری جان سے زیادہ تو پیارا ہو جائے، اور سرٹکوں پر حسینوں اور نمکیوں کی ننگی ٹانگوں کو نہ دیکھنے سے کتنی ہی تکلیف ہو لیکن ہم تکلیف گوارا کر لیں، اور آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہماری رُو باہیت اور لومڑیت کو شیریت سے بدل دے۔ (وعظ نمبر 78 محبت الہیہ کی عظمت)

یا اللہ! اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی ذاتِ پاک کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمادے، اور اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمادے، یا اللہ! شہوت کا نشہ ہو یا کبر کا نشہ ہو، بڑائی کا نشہ ہو یا خواہشات کا نشہ ہو، ہر قسم کے نشہ کو اتار کر اے اللہ! ہم کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی سو فیصد فرماں برداری نصیب فرمادے۔ (وعظ نمبر 80 آداب محبت)

اے اللہ! ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما، کہ ایسی لذت آپ کے نامِ پاک میں مل جائے کہ سلطنت سے بھی ہم فروخت نہ ہو سکیں، سورج اور چاند بھی ہمیں نہ خرید

سکیں۔ جن اعمال سے حضور ﷺ خوش ہوتے ہیں، ان اعمال کی اللہ! توفیق دیدے، اور جن اعمال سے آپ یا آپ کے نبی ﷺ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ! ہم تیرے غضب سے، اور تیرے نبی کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، اور اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں میں اصلاح کر دے۔ (لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَعْلٰی شَرِیْحٌ، حضرت پُرس علیہ السلام کا واقعہ، CD8)

آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں نہیں ہے۔ اے خدا! ساری دنیا کی مصیبت اگر جمع کر کے کسی ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے، اور کسی بندے سے آپ ناراض ہوں، تو سب سے بڑی اور سخت مصیبت میں وہ ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ اس لیے ”اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ“ اے خدا! ہم آپ سے آپ کی خوشنودی کی درخواست کرتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں۔ ”وَاعُوْذُبِکَ مِنْ سَخَطِکَ وَالنَّارِ“ اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں (ناراضگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے زیادہ اہمیت دی۔ اس لیے اس سے پہلے بیان فرمایا)۔ اللہ تعالیٰ! ہماری عقل و ایمان کو درست فرما دے، اور ہمیں جسمانی و روحانی صحت عطا فرمائے۔ آمین (بیان جذب نمبر 32، CD3)

ماضی کو معاف، حال کو تقویٰ سے روشن اور مستقبل کو تابناک فرما!

حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی جامع دعا سکھلائی جو ماضی حال مستقبل تینوں زمانہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے:

اے اللہ! ہماری ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما دے، موجودہ حالت کو تقویٰ کے نور سے روشن فرما دے مستقبل کو نور تقویٰ سے تابناک فرما دے۔ اے اللہ! اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اب تک جو نالائقیاں ہوئیں، اُن کو معاف فرمائیے، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائیے، اِسْتِقَامَتْ عَلٰی الدِّیْنِ نَصِیْبٌ فَرْمَايَے۔

آمین (وعظ نمبر 62 ثبوت قیامت اور اس کے دلائل، وعظ نمبر 63 حقوق الرِجال)

بُری تقدیر سے بچا

ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا و آخرت میں عافیت ملے، اور حسنِ خاتمہ نصیب ہو، اور سوءِ قضا اور سوءِ خاتمہ سے حفاظت اور درِ دل سے خاتمہ بالخیر اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لئے دُعا میں مانگی ہیں:

اے خدا! جملہ سوئے قضا کو حُسنِ قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر ہماری قسمت میں خطرناک مرض لکھے ہیں، تو جملہ ”سَيِّءُ الْأَسْقَامِ“ کو صحت و عافیت سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر ہمارا خاتمہ خراب لکھا ہے تو آپ اپنے کرم سے اس سوئے قضا کو حُسنِ قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ اگر آپ نے ہم کو چھٹی لکھا ہے، تو آپ اپنی قدرتِ قاہرہ سے اپنے کرم سے ہم کو چھٹی لکھ دیجئے۔ جملہ سوئے قضا کو حُسنِ قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ جیسا کہ اے اللہ! مولانا رومی نے فرمایا کہ: اے خدا آپ کا فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے۔ آپ کا محکوم ہے، لہذا اپنی حاکمانہ قدرت سے اپنے جملہ فیصلوں کو جو ہمارے لیے مضر ہیں ان جملہ سوئے قضا کو حُسنِ قضا سے تبدیل فرما دیجئے۔ (وعظ نمبر 14 تکمیل معرفت)

نافرمانی والی زندگی اور گناہ والی حیات سے محفوظ فرما!

اللہ! ہم سب کو عقلِ سلیم، فہمِ سلیم عطا فرمائے، راہِ حق پر قائم رکھے، اور گمراہی سے

بچائے۔ (وعظ نمبر 158 صلی پیری مریدی کیا ہے؟)

ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، کیوں کہ ہماری زندگی کی وہ منحوس گھڑی ہے، وہ بہت ہی خسارے کی گھڑی ہے جو گھڑی آپ کی نافرمانی میں گذرے، لہذا ہماری زندگی کا غیر شریفانہ وقت ہے، نہایت ہی بے حیائی، کمینہ پن اور لعنتی وقت ہے جو آپ کی نافرمانی میں گذرے، اس لیے آپ ہماری زندگی کی ہر سانس کو تحفظ عطا فرمائیے، اور ہمارے دلوں کا مزاج بدل دیجئے، سوچ بدل دیجئے، فکر بدل دیجئے، ہماری فکر آپ کی رضا میں مصروف ہو، ہمارے دل آپ کی یاد میں مصروف ہوں، ہماری زندگی کی ہر

سائنس آپ کے عشق میں مصروف ہو، بال بال ہمارا تقویٰ والا بنادے، اللہ والی حیات کی نوازش فرمادیتجئے۔ (وعظ نمبر 64 نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے)

اللہ تعالیٰ! ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور مرنے سے پہلے اے خدا! ہم سب کو اپنا ولی بنا کر دُنیا سے اٹھائیے، اور دیر بھی نہ ہونے دیجئے۔ آپ کی نافرمانی میں جینا اور آپ کی فرماں برداری میں ذراسی بھی تاخیر کرنا ہم غیرتِ بندگی اور شرافتِ بندگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ رزق آپ کا کھاتے رہیں، اور اپنی نافرمانی میں آپ ہم کو دیکھتے رہیں۔ (وعظ نمبر 39 فیضانِ حرم)

بے حساب مغفرت اور ایمانِ کامل پر خاتمہ فرما!

یا اللہ! ہم سب کے والدین اور اعزاء واقربا جو چکے ہیں سب کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ! آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اور اے اللہ! ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ایک لمحہ کو بھی آپ کو ناراض نہ کریں، ہمارا کوئی سائنس بھی آپ کے غضب و ناراضگی کے سائے میں نہ گزرے۔ ہماری زندگی کے جو شعبے آپ کی مرضی کے خلاف ہیں اے اللہ! ہمیں موت نہ دیجئے جب تک ہم ان کو آپ کی مرضی کے مطابق نہ بنالیں۔ اے اللہ! آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ آپ کی رضا اور خوشی سے بڑھ کر ہمارے لئے کوئی انعام نہیں، اور اپنے اپنے وقت پر ایمانِ کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرمائیے، اور بے حساب مغفرت کو مقدر فرمادیتجئے۔

(وعظ نمبر 06 تسلیمِ درضا)

خوش سلامت ماہِ ساحلِ بازبر
اے رسیدہ دست تو در بحر و بر

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشِ قدم کی اتباع نصیب فرما!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع پر بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا موقوف ہے، اس کے لئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے اور درد بھرے نداءز میں دعا مانگی ہے اور شدت محبت کی وجہ سے خواب میں زیارتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نعمت کو بھی مانگا ہے، اور خواب میں زیارت سے بڑھ کر اتباعِ سنت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے، جس کو درد بھرے دل سے مانگ کر ہم کو اس نعمت کے مانگنے کا سبق دیا ہے:

یا اللہ! اپنی رحمت سے ہم سب کو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر، اور آپ کی ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت محبت کو ہمارے سینوں میں بھر دے، اور بلا استحقاق سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو خواب میں عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اس کا استحقاق نہیں ہے، لیکن آپ کریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا نبی بھی کریم ہے۔

یارب تو کریمی و رسول تو کریم

یا اللہ! اپنی رحمت سے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو خواب میں نصیب فرما دے، اور خواب میں زیارت سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق اور آپ کی نافرمانی سے بچنا۔ پس اے اللہ! یہ نعمت بھی عطا فرما دے۔ اور اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے، اور جو لوگ آپ کے فرامینِ عالیہ کو پاش پاش کر رہے ہیں، اے خُدا! ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم آپ کے فرمانِ عالی شان کو سر آنکھوں پر رکھ کر اس پر عمل

کریں۔ (وعظ نمبر 73 آدابِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم)

ہر ایک کے حق میں دعا !

اے خدا! اہل ایمان کے لیے ہم آپ سے دونوں جہاں کی فلاح و کامیابی کی بھیج مانگتے ہیں، اور ساری دُنیا کے کافروں کے لیے ایمان کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے اہل تقویٰ ہونے کی درخواست کرتے ہیں، اور اہل مرض کے لیے اہل صحت ہونے کی درخواست کرتے ہیں، اور اہل بلاء کے لیے اہل عافیت ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ آمین (مقاصدِ بعثت نبوت CD5)

جامع دعائیں!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا جو آپ کی حیاتِ طیبہ میں مانگی گئی تمام دعاؤں کی جامع ہے۔ جس کو اردو زبان میں بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں ہمارے پیارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مانگ کر اردو دانوں کے لئے سہل فرما دیا۔ (فَجَزَاهُ اللَّهُ جَزَاءً وَافِرًا)

سرورِ عالم ﷺ نے ۲۳ برس میں جتنی بھلائیاں مانگیں سب ہم کو عطا فرمادے، ہم سب کو جتنی بُرائیوں سے پناہ مانگی ان سب برائیوں سے پناہ نصیب فرمادے۔ یا رَبِّ الْعَالَمِينَ! جتنی بھی دعاؤں کی ہمارے دوستوں نے ہم سے فرمائش کی ہے، یا اس مجمع میں جن لوگوں نے ہم سے کہا ہو، یا اللہ! جتنے میرے دوستوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا انہوں نے خط لکھا ہو، اور ہم کو نہ ملا ہو، یا ہم نے وعدہ کیا ہو، یا وہ ہماری دعاؤں سے توقع رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ! ہم سب کو جمع مقاصدِ حسنہ میں با مراد فرما، اور جمع ہُموم اور غموم اور جمع پریشانیوں سے نجات اور عافیت نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا اے خدا! وہ بھی عطا فرمادے، تمام عمر بھر کی دعاؤں کو قبول فرما، بلکہ جو ہم نہیں مانگ سکے، بے مانگے سب کچھ عطا فرمادے۔ ابا اپنے بچوں کو بعض وقت بے مانگے بھی دیتے ہیں آہ اس لیے اے خدا! اپنی شفقت سے آپ ہمارے رہا ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگا اپنی رحمت

سے، اور کرم سے، وہ سب کچھ عطا فرمادیتے جو ہم سب کے لیے آپ کے علم میں مفید ہے۔
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا. (وعظ نمبر 14 تکلیل معرفت)

عربی دعائیں!

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا
 لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ،
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا
 طَرْفَةَ عَيْنٍ. اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَلَا تُشَقِّنَا بِمَعْصِيَتِكَ. (نفس کی حقیقت)

اور اس کے شر سے حفاظت، CD5)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيْكُ مُقْتَدِرٍ، مَا تَشَاءُ
 مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ، اللَّهُمَّ أَسْعِدْنَا بِتَقْوَاكَ، اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَشِمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ
 بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صَلَّى
 اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ
 الْإِلَهِيَّةُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِحَقِّ آيَةِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 وَبِحَقِّ وَالْهَيْكُمِ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. (بیان ڈھلا گھر مسجد، ڈھاکہ CD4)

اے اللہ تو قبول فرما لے!

اے اللہ! جو کچھ عرض کیا گیا اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ میری زبان کو جس
 نے آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کی باتیں سنائی ہیں، اور میرے دوستوں کے کان کو،
 جنہوں نے محبت سے آپ کی باتوں کو سنا ہے، اور میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کو جو گھر کے اندر
 وعظ کو سنتی ہیں، سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے، اور قبول فرما لیجئے۔ اور آپ کریم
 ہیں، جب زبان اور کان قبول کر لیں گے تو سارا ہی جسم قبول فرما لیں گے، اور ہمارے دلوں
 کو بھی قبول فرمائیے، اور ہماری روحوں کو بھی قبول فرمائیے۔ (وعظ نمبر ۴ علاج الغضب)

یا اللہ! آپ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ جتنا بڑا آپ کا نام ہے ہم سب پر اتنی رحمت
 فرما دیجئے۔ اے اللہ! پہاڑوں کے دامن میں آپ کا جو کچھ نام لیا گیا اس کو قبول فرمائیے اور
 پہاڑوں کے ذرہ ذرہ کو، اور پیڑوں کو اور تنکوں کو، قیامت کے دن گواہ بنائیے۔ ہمارے ذکر
 کو قبول فرمائیے۔ (وعظ نمبر 10 منازل سلوک)

(ایک خاص موقع پر یوں دعا کی) اے اللہ! اس گھر میں برکت نصیب فرمائیے،
 جنہوں نے آپ کی باتوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنانے کا انتظام کیا،
 اور ہمیں بلایا۔ اے اللہ! بلانے والے کو بھی قبول فرما، تجھے بھی قبول فرما، اور میرا وعظ بھی قبول
 فرما۔ سننے والی خواتین اور مستورات جو آئی ہیں اے اللہ! ان کو بھی قبول فرما اور ہم سب کو

اپنا پیار، اپنی محبت نصیب فرما۔ آمین (وعظ نمبر 63 حقوق الرجال)

آسان حساب کتاب!

حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کی دعا برائے ”آسان حساب کتاب“ کو بھی اپنی دعا میں مانگا ہے جو کہ ہماری بھی ضرورت ہے بلکہ پوری امت کی ضرورت ہے:

اَللّٰهُمَّ حَاسِبِنَا حَسَابًا يَّسِيْرًا يَا اللّٰهُ! ہمارا حساب آسان فرما (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ: آسان حساب کیا ہے؟ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے نامہ اعمال کو دیکھ کر فرمائیں، جاؤ جنت میں، کچھ پوچھ گچھ نہ ہو)۔ اے اللہ! ہم سے کچھ نہ پوچھیں قیامت کے دن، بلا حساب اپنے فضل سے جنت کا فیصلہ مقدر فرما۔ (مشکوٰۃ شریف، ص: ۲۸۳، بحوالہ پردیس میں تذکرہ وطن CD4)

آمین یارب العالمین